

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عزب الرسول

مُصَنَّفَةٌ

مولانا محمد صادق سیالکوٹی

تعمیراتی کتب خانہ

حق سٹریٹ، اردو بازار

لاہور، پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

وَقَالَ الْإِسْلَامِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ
وَأُورِكَهَا تَسْبِيحًا يُرَدُّ كَارِنَةَ دُعَاكَ وَجُحْتَ قَبُولِ كَرَمَلَا
وَأَسْطَى تَهَابَ ،

نہ چھوڑے دل فغانِ صبحِ گاہی
اماں تائیدِ بے اللہ ہوں میں!

حِزْبُ الرَّسُولِ

اس کتاب کے چمن زار میں جناب سید ولد آدم، راہ نورِ جادۃ اسری
شافع روزِ جزا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی دعاؤں
کے وہ پھول کھلے ہیں جنکی عنبرِ فشانوں سے دنیا اور عقبے دونوں جہاں ہمک لہے ہیں

تَالِيفُ : مولانا حکیم محمد صدق سیالکوٹی مَظَلَّة

ناشر: مکتبہ نعمانیہ ◉ اردو بازار گوجرانوالہ

لاہور میں منے کا پتہ: نعمانی کتب خانہ حق سٹریٹ اردو بازار لاہور

خطبہ رحمتہ للعالمین ﷺ

اللہ الخیر

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَ
نَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُتَوَكَّلُ

عَلَيْهِ وَنُحِبُّ كَلِمَاتِهِ الْمُبَارَكَةَ وَنُحِبُّ

... ہے، ازلہ تا ازلہ۔

06964

سید نبی اکرم ﷺ کی خطبہ رحمتہ للعالمین کی شرح اور تفسیر

پروفیسر اور تقریر کے شریع میں پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ خطبہ بالفاظ مختلف

مسلم، ابوداؤد، ترمذی میں موجود ہے۔

وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيهِ اللهُ
 فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ
 لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
 لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
 وَرَسُولُهُ ————— أَمَّا بَعْدُ ————— فَإِنَّ خَيْرَ
 الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْمَدْيِ
 هَدْيِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ
 مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَ
 كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

ترجمہ : سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں (اسلئے) ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور اپنے ہر کام میں اُنسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم اس (رب العالمین) سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اسی ذات پاک، پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے (بھی) اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ (یقین مانو) کہ جسے اللہ راہ دکھائے۔ اُسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ (خود ہی) اپنے دُر سے دھتکار دے اس کے لئے کوئی راہبر نہیں ہو سکتا، اور (ہم تِرِ دل سے) گواہی دیتے ہیں کہ معبود برحق (صرف) اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور وہ اکیلا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں۔ اور (اسی طرح تِرِ دل سے) ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اسکے خاص بندے اور (آخری) رسول ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) حمد و صلوة کے بعد (یقیناً) تمام باتوں سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور تمام راستوں سے بہتر راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔

اور تمام کاموں میں بدترین کام وہ ہیں جو خدا کے دین
میں اپنی طرف سے نکلے جائیں۔ (یاد رکھو) دین میں جو
کام نیا نکالا جائے، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت
گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی
ہے۔“



وہ دانائے سُبُلِ نَجْمِ الرَّسْلِ، مَوْلائے کُلِّ حَسْبِ نِے
غَمِّ رِیَاحِ کَوْجِ شَمْسِ رُغِ وَادِیِّ سِیْنَا!
راقباً

ذَرَّه ذَرَّه هے حَرْفِ اَفْتَابِ وَ كَهْشَاں
يُوْحَىٰ بِلِي رِيْزِ هے فَانُوْسِ اِيْوَانِ رَسُوْلٍ
(مَر)

پيٲي پيٲي كِي جَبِيسِ مِيں مَسْكِرَاتِي مِيں چَمْنِ
هے بَهَارِ اَسْرُوْزِ اَتِكِ حَسَنِ بَسْتَانِ رَسُوْلٍ
(مَر)

پیش لفظ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فضالتی مہدیوں نے ہے ذرا آگے
قدم اٹھایا امت ماسماں سے دُور نہیں

اسی عالم کون و فساد کے اندر بے بس ، مضطر اور لاچار انسان
ہر حین و آن اپنے خالق - مالک - رازق اور پروردگار کا سخت
محتاج ہے ۔ اگر اللہ تعالیٰ ہو اسے آکسیجن سلب کر لے ۔ زمین
سے پانی خشک کر لے اور برق نہ اگائے تو تمام انسان
ان واحد میں ہلاک ہو جائیں ۔ اس کے علاوہ آدمی استقرار
حل سے تا دم واپس ہر سانس کے ساتھ ساتھ فقیر در
رب الارباب ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے ۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الْفَقْرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ
الْمُغْنِي عَنِ الْمَعْدِينِ ۔ (پہلا ع ۱۵)

”اے لوگو! تم (سب) محتاج ہو طرف اللہ کی، اور اللہ وہی ہے بے احتیاج تعریف کیا گیا۔“

یعنی اے انسانو! آدمیو! ذریتِ ابوالبشر! خواہ تم میں سے پیغمبر ہے یا اُمّتی - کوئی بادشاہ ہے یا غلام - امیر ہے یا عزیز - اعلیٰ ہے یا ادنیٰ - گلفام ہے یا سیاہ فام سب کے سب یکساں طور پر اللہ کے در کے بھکاری و محتاج اور فقیر ہو۔ کسی کو اللہ کی جناب میں احتیاج سے مفر نہیں۔ حضرت مونس علیہ السلام ایک سفر میں تھکے ماندے، بھوکے، اللہ تعالیٰ کے حضور یوں دعا کرتے تھے:

رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرِ فَقِیْرٌ

(پ ۲۰ ع ۶)

”اے میرے پروردگار! تو اپنے خزانِ کرم سے (میں وقت) جو نعمت بھی، مجھ کو بھیج دے میں اس کا دست، محتاج ہوں۔“

جناب سرورِ کائنات، سید الکونین، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا میں یوں عرض کرتے ہیں:

وَ اَنَا الْبَائِسُ الْفَقِیْرُ الْمُسْتَعِیْثُ (طبرانی شریف)

”میرے مولا! میں خستہ حال فقیر ہوں تیرے در پر

فرمادی بنگر آیا ہوں“

تو ڈالی رعنا کی آغوش میں پیر سرانذیب کی دکھوں -
 دردوں ، غموں ، اندوہوں ، کربوں ، بلاؤں ، مصیبتوں ،
 بیماریوں ، آفتوں ، پریشانیوں ، حادثوں ، بے روزگاریوں
 حیرانگیوں ، اضطرابوں ، پرانگستگیاں ، اداسیوں ، فکر مندلیوں ،
 آشفتمند حالیوں ، غفلتوں اور گناہوں میں غریق اولاد کے
 لئے از بس ضروری ہے کہ اللہ علام الغیوب اور علیٰ کل شیء
 قدیر ذات سے دعا کرتی رہے -

دُعا کی فضیلت

یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ، اور اس کی بخشش ہے ۔ کہ
 اس نے دُعا کو عبادت کا درجہ دیا ہے ۔ رحمتِ عالم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی معصوم ذات نے فرمایا ہے :

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ (ابوداؤد - ترمذی)

” دُعا وہ عبادت ہی تو ہے “

پھر حضور انورؐ نے آیہ ذیل پڑھی جو دُعا کے متعلق ہے :

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ

الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ

(پ ۱۷ ع ۱۱)

جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

” اور کہا ہے تمہارے پروردگار نے کہ دُعا مانگو مجھ سے کہ میں تمہاری دُعا قبول کروں گا۔ جو لوگ تکبّر کرتے ہیں میری عبادت سے (یعنی میری جناب میں دُعا مانگنے سے) قریب ہے کہ داخل ہوں گے دوزخ میں ذلیل ہو کر۔“

نوٹ: اس آیت میں عبادت سے مراد دُعا ہے۔ یعنی جو لوگ دُعا مانگنے سے تکبّر کرتے ہیں۔ خود کو دُعا مانگنے سے مستغنی سمجھتے ہیں۔ دُعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے حضور اپنی محتاجی، فقیری، ضرورت، حاجت کے لئے ہاتھ نہیں اٹھاتے، گناہوں کے لئے لب نہیں ہلاتے وہ متکبّر ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الدُّعَاءُ مَعَ الْعِبَادَةِ (ترمذی)

”دُعا عبادت کا مغز ہے“

یعنی عبادت کا خلاصہ اور مقصود بالذات دُعا ہے کیونکہ عبادت کی حقیقت ہی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو عاجز اور ذلیل سمجھے۔ اور یہ بات دعا میں حاصل ہوتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا :

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ

(ترمذی - ابن ماجہ)

ترجمہ - "نہیں ہے کوئی چیز اللہ کے نزدیک بزرگ قدر

دُعا سے" (ترمذی - ابن ماجہ)

خوط : چونکہ دُعا دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بندے کے کمالِ عجز پر۔ بے بس ، لاچار ، مضطر ، عاجز ، تنگ ، مجبور ، ناچار ، مغلوب ، مایوسِ خلق ، ناامیدِ عالم ، مسکین ، گومی اللہ واحد القہار ، علیٰ کل شیء قدير ، مختارِ کل ذات سے مانگتا ہے۔ اس لئے اللہ دعا کا اکرام کرتا ہے۔

حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا :

لَا يَرُدُّ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعَمْرِ

إِلَّا الْبِرَّ (ترمذی شریف)

"نہیں پھرتی تقدیر کو مگر دُعا ، اور نہیں زیادتی کرتی

عمر میں مگر نیکی"

نوٹ : مراد یہاں تقدیر سے کسی مکروہ چیز کا نزول ہے کوئی

آفت - مصیبت - مرض - حادثہ - بلا - سختی - زحمت - صدمہ

وغیرہ - تقدیر معلق

جب بندہ اللہ کی جناب میں خلوص و خشیت اور آہ و زاری سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے سبب وہ بلا اور مصیبت وغیرہ ٹال دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دعا دافع البلاء ہے۔ گویا اللہ کی عبادت بلکہ خلاصہ عبادت سے بلا ٹال گئی۔ ہاں تقدیر مبرم میں کچھ تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ موت کا ایک دن معین ہے۔ نہیں ٹال سکتا۔

اور نیکی سے عمر میں برکت دی جاتی ہے۔ بابرکت عمر فضل اور زیادتی کی حامل ہوتی ہے۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَ مِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَحَلِّیْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ (ترمذی)

”بے شک دعا نفع کرتی ہے اس چیز سے۔ کہ اُتری اور اس چیز سے کہ نہیں اُتری۔ پس لازم کرو اپنے اوپر اسے اللہ کے بندو دعا کو۔“

نوٹ رحمت عالم کے فرمان سے ثابت ہوا۔ کہ جو مصیبت یا بلا اُتر چکی ہو، اس کے لئے بھی دعا کرنا نافع ہے۔ اور جو مصیبت ابھی نہیں اُتری۔ اس کے اترنے سے پہلے ہی اللہ سے خیریت و عافیت کی دعا کہتے رہیں

تو وہ مصیبت اُترتی ہی نہیں۔ اس لئے حضورؐ نے فرمایا :
 کہ اے اللہ کے بندو! دعا مانگنا اپنے اوپر لازم کر لو۔
 یعنی ہر وقت دعا کرتے رہا کرو۔ اس سے اُنی بلا بھی
 ملتی ہے اور اُنے والی بھی ٹلی رہتی ہے۔

رحمتِ عالم ارشاد فرماتے ہیں :

لَا يَغْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ وَالِدُعَاءِ يَنْفَعُ مِمَّا
 نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ
 يَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (طبرانی)
 وہ نہیں فائدہ دیتا ڈرنا تقدیر سے (یعنی ڈرنے سے
 بلائے مقدر کا اترنا دفع نہیں ہوتا) اور (البتہ)
 دعا نفع دیتی ہے اس بلا سے کہ نازل ہوئی اور
 اس سے کہ نازل نہیں ہوئی اور جب بلا اُترنے
 کا ارادہ کرتی ہے تو دعا اس سے ملتی ہے۔ پھر
 دونوں قیامت تک لڑتی ہیں۔

نوٹ سابقہ حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ دعا کرنے سے
 نازل شدہ بلا بھی دور ہو جاتی ہے اور جو بلا ابھی
 نازل نہیں ہوئی۔ دعا سے وہ بھی رُک جاتی ہے۔
 اس حدیث میں حضورؐ نے مزید ارشاد فرمایا ہے کہ جب
 بلا نازل ہونے کا ارادہ کرتی ہے، یعنی نیچے آنا چاہتی

ہے تو دُعا اوپر چڑھتی ہے۔ پھر دونوں آپس میں گتھم گتھم ہوتی ہیں، لڑتی ہیں۔ اسی طرح قیامت تک دُعا بلا کو روک رکھتی ہے۔ نیچے اُنے نہیں دیتی۔ یوں سمجھئے؛ کہ جس طرح لڑائی میں ڈھال سینے کو تیر سے بچاتی ہے، اسی طرح دُعا سپر بشکر تیر بلا کا مقابلہ کرتی ہے اور صاحبِ دُعا کو بچاتی ہے۔ اس سے دُعا کی بزرگی، منزلت، فائدہ، اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔

ملاحظہ اگر مہرم بلا ہو تو دُعا کا پھر بھی فائدہ ہے۔ کہ اللہ صبر کی توفیق دیتا ہے اور وہ بلا اس پر سہل ہو جاتی ہے اور اس کی سہارے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ بندہ راضی برقا ہو کہ اللہ کے مقربوں سے ہو جاتا ہے اور اس کا انجام ان صالحین کی مانند ہو جاتا ہے جو نفسِ مطمئنہ رکھتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَخْضِبْ عَلَيْهِ (ترمذی)
 ”جو شخص اللہ سے نہ مانگے۔ اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے“

نوٹ: ترکِ سوال اللہ کی جناب میں تکبر اور لاپرواہی ہے

اس لئے اللہ غصے ہوتا ہے۔

غور کریں کہ اگر کسی سے مانگیں تو وہ غصے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نہ مانگنے پر غصے ہوتا ہے۔ کتنا اچھا پروردگار رازق اور مہربان ہے۔

حضرت ابن عمر رضی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ فَتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فَتَحَتْ لَهُ
 أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَمَا سَأَلَ اللَّهَ شَيْئًا يَعْزِي
 أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ وَ (ترجمہ)
 ”تم میں سے جس شخص کے لئے دعا کا دروازہ کھولا گیا
 کھولے گئے اس کے لیے دروازے رحمت کے
 اور نہیں مانگی جاتی اللہ تعلقے سے کوئی چیز
 یعنی بہت محبوب طرف اللہ کے اس سے کہ
 مانگی جائے عافیت۔“

جس کے لئے دعا کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس کو **نوٹ** دعا مانگنے کی بہت توفیق ملتی ہے۔ پورے آداب اور شرائط کے ساتھ۔ پھر ایسے شخص کیلئے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ کبھی مانگی ہوئی چیز ملتی ہے۔ کبھی کوئی برائی

تکلیف مصیبت ٹال دی جاتی ہے اور کبھی دعا ذخیرہ کر دی جاتی ہے کہ اس کے سبب بزنح اور آخرت کی تکالیف دور ہوں گی۔

اور دعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب دعا خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگی جائے اور عافیت کے معنی ہیں سلامتی اور امن۔ تمام آفات، امراض، بلاؤں اور مکروہات ظاہری و باطنی سے۔

حضرت ابی ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّسْتَجِيْبَ اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَ الشَّدَائِدِ
فَلْيُكْتَبْ لَهٗ الدُّعَاءُ فِي الرِّضَاءِ مَا دَرَسَ

”جس شخص کو یہ خوش لگے کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ سختیوں میں قبول کرے تو اسے چاہیے کہ بہت دعا کرے فراخی کی حالت میں“

نوٹ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ امن اور سلامتی۔ فراخی اور کشائش کے زمانے میں دعا کرنی چھوڑ دے اور جب تنگی، بیماری وغیرہ آئے تو اس وقت رو کر دعا مانگے۔ بلکہ فراخی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے خیریت

عافیت اور شکر و طاعت کی توفیق کی دعا مانگنی چاہیے۔ پھر اگر مصائب و نواب میں دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ جلد قبول کرے گا۔ دعا فراخی اور تسکین کی حالت میں برابر جاری رکھنی چاہیے۔

حضرت انس رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”لَا تَحْجِزُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لَنْ

يَمْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ“ (ابن حبان)

”دعا مانگنے میں عاجز نہ ہوؤ۔ کیونکہ دعا کے ساتھ کوئی بلاک نہیں ہوتا“

نوٹ دعائیں عاجز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنی چھوڑ نہ دو۔ تھک بار کر ترک نہ کر دو، بلکہ دعا جاری رکھو۔ ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے رکھو کہ دعا کی برکت یہ ہے کہ کوئی دعا کے ساتھ بلاک نہیں ہوتا۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے: جیسا کہ حضور نے فرمایا:

الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُ الدِّينِ

وَنُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (حسن حسین)

”ترجمہ“ دعا مومن کا ہتھیار ہے (کہ اس سے بلا اور

مصیبت کا مقابلہ کرتا ہے، اور دین کا ستون ہے اور آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے۔“

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 مَا مِنْ مُسْلِمٍ تَصَبَّ دَجَّتَهُ لِلَّهِ تَعَالَى فِي
 مَسْئَلَةٍ إِلَّا أَعْطَاهَا آيَاتًا إِمَامًا أَنْ يُعْجَلَمَا
 لَهُ وَإِمَامِيَّةً يَخْرُهَا لَهُ (احمد)

ترجمہ۔ ”جو مسلمان کسی سوال کے لئے اپنا منہ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال اسے عنایت کر دیتا ہے، یا اس کا سوال جلد دیتا ہے۔ یا اس کو ذخیرہ کر دیتا ہے اس کے لئے“

نوٹ سوال جلد عطا کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں کسی وقت اس کی مراد پوری کر دیتا ہے یا سوال اور دعا کو ذخیرہ کر دیتا ہے۔ آخرت کے لئے کہ اس کے گناہ معاف کر دئے گا۔ اس کو بہت اجر دے گا۔ الحاصل مومن کی دعا آداب و شرائط کے ساتھ کی ہوئی ہرگز ضائع نہیں جاتی۔ دنیا میں یا آخرت میں ضرور ضرور بار آور ہوتی ہے۔

انسان چاہتا ہے کہ اس کی ہر بات پوری ہو۔ اس کی ہر پسند اس کو ملے کہ لیکن ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ وہ اس کے لئے انجام کے لحاظ سے بُری ہو اور جس کو وہ ناپسند

کرتا ہے وہ اس کے حق میں اچھی اور بہتر ہو۔ دُعا کا دُعا کرنے والے کے حق میں
 انجام کے لحاظ سے اچھا یا بُرا ہونا اللہ عالم الغیب ہی جانتا ہے۔ اس لئے
 بندے کا کام خلوص سے دعا کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس دعا
 کرنے والے کے حق میں جو بہتر ہے وہ کرے گا۔ اس کا
 سوال اسی وقت پورا کرے۔ ہفتہ کے بعد، یا سال
 کے بعد پورا کرے۔ یا بجائے اس سوال کے اسکی کوئی
 اور حاجت پوری کر دے۔ یا کوئی اتارنے والی بلا طام
 دے۔ یا قبر، پلصراط، یا میزان کے وقت اسکی سختی
 دور کر دے۔ اس کے درجات بلند کرے۔ وہ پاک
 ذات بندے کی بڑی خیر خواہ ہے۔ اس سے بہتر
 سلوک کرے گی۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ دعا مانگنے،
 وظائف پڑھنے میں سستی نہ کرے۔ بے حضور نہ ہو
 تنگ آکر چھوڑ نہ دے۔ جلد باز نہ ہو کہ ابھی ہمتیلی
 پر سرسوں کیوں نہیں جمتی! یاد رکھیں کہ بندے کی دعا
 ضرور قبول ہوتی ہے۔ قبولیت کے رنگ علیحدہ علیحدہ
 ہیں۔ جس رنگ کو خدا پسند کرے وہ ہی بندے
 کے حق میں بہتر سے بہتر ہے۔ اللہ کی پسند کو
 اپنی پسند پر ترجیح دینی چاہیے۔ بندے کا کام دُعا
 کرنا۔ مانگنا۔ اہ و زاری کرنا۔ چیخنا، چلانا۔ اور

گر گڑانا ہے۔ نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اشارے پر چلے۔ ہر بات میں ملازم کی طرح معاذ اللہ تعمیل کرے۔

بندے! تیرا کام بندگی ہے۔ پس بندگی کر! لاچار اور مضطر انسان! ذنبیل سوال لئے ہر دم داتا کے در پر کھڑا رہ! صد دیتا رہ! رزاق ذوالقوة المستین اجیب کے روزن سے ضرور خیر ڈالے گا۔ وہ خیر جو تجھے دنیا و مافیہا سے بے نیاز کر دیگا۔

اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ سچا حاجت روا مشکلکش، دافع بلا ہے۔ ہر وقت بندوں پر نظر رحمت رکھتا اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّ دَعْوَتَكُمْ حَيْثُ كَرِهْتُمْ لَيَسْتَجِيبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا (ترمذی - ابوداؤد)

(ترجمہ) ”بے شک پروردگار تمہارا بہت حیا مند

ہے۔ دینے والا ہے بغیر سوال کے، جب کرتا ہے اپنے بندے سے کہ جب وہ اٹھاتا

ہے اپنے دونوں ہاتھ ، پھرے اُن کو خالی “
نوٹ ہر چیز پر قادر اللہ تعالیٰ کتنا حیا مند ہے ۔
 کہ اپنے بندے کو اپنے در سے خالی ہاتھ
 نہیں پھیرتا ۔

بندوں کو چاہیے کہ دُعا کے اَداب و شرائط کیسے تھے ۔
 دُعا مانگیں ، اور قبولیت کا پورا پورا یقین کر کے دُعا
 کریں ۔ رحمتِ عالم ارشاد فرماتے ہیں :

ادْعُوا اللَّهَ وَ اَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْاَحْبَابِ
 وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ
 قَلْبٍ غَافِلٍ لِآيَةٍ (ترمذی سے شریف)

” دُعا مانگو اللہ سے در حالی کہ تم یقین رکھتے
 ہو ۔ ساتھ قبولیت کے ، اور یاد رکھو ۔ کہ
 اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا دُعا غافل کھینے والے
 دل کی “

نوٹ تو دُعا بڑے یقین سے کرنی چاہیے ۔ کہ
 اللہ تعالیٰ اپنے فضلِ عظیم سے ضرور قبول
 کرے گا ۔ نا اُمیدی کا خیال تک نہیں آنا چاہیے ۔
 قلب غافل وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہنگام دُعا خضوع
 و خشوع اور حضور و خلوص نہ ہو ۔ دست در تَسبیح ،

دل درگاؤ ختم۔ قلب غافل کے متعلق ہی کہا گیا ہے۔
 اوراد و وظائف اور دعا میں استعجال نہ چاہیے، کہ
 کہے۔ اتنا عرصہ ہو گیا میں نے دعا مانگتے اور وظیفہ
 پڑھتے۔ مگر ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ بلکہ پورے
 یقین اور وثوق کے ساتھ دعا جاری رکھے۔ حزب
 پڑھتا رہے۔ رحمت عالم فرماتے ہیں :

يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ
 قَطِيْعَةٍ رَجِمَ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قَيْلَ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ مَا الْاِسْتِعْجَالُ قَالَ يَقُولُ قَدْ
 دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ اَرَ يُسْتَجَابُ
 لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ
 (صحیح مسلم)

ترجمہ۔ قبول کی جاتی ہے (دعا) بندے کی (ساتھ)
 شرطوں قبولیت کے، جب تک نہیں مانگتا دعا
 گناہ کی یا توڑنے ناتے کی۔ جب تک کہ نہیں
 جلدی کرتا۔ عرض کیا گیا۔ اے اللہ کے رسول! کیا
 کیا ہے جلدی؟ فرمایا کہ کہے (بندہ دعا مانگنے والا)
 تحقیق میں نے دعا مانگی اور تحقیق میں نے دعا
 مانگی۔ (اسی بار، اتنا عرصہ) پس مجھے قبول ہوتی

نظر نہیں آتی۔ پھر تھک جائے نزدیک اُسکے
اور چھوڑ دے دعا مانگنی۔“

نوٹ: دعا گناہ کی نہ مانگے۔ یعنی کسی مسلمان کیلئے

ناحق بددعا نہ کرے۔ تجارت حرام میں نفع

کی دعا نہ مانگے۔ یا کسی کافر یا مشرک مرے ہوئے

کے لئے بخشش کی دعا نہ کرے، یا محال چیزوں کے

لئے اور نہ نانا رشتہ توڑنے کی دعا کرے۔ جیسے

کہے کہ اے اللہ! میرا تعلق میرے والدین سے، یا

بھائیوں سے اور بیہنوں سے توڑ دے۔ اور نہ دعا

میں جلدی کرے کہ تھک ہار کر دعا کرنی ہی چھوڑ

دے کہ تینوں کام دعا کی قبولیت میں مانع ہیں۔

مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لئے دعا

کرے تو بوجہ خلوص قبول ہوتی ہے۔ سرورِ عالم

ارشاد فرماتے ہیں کہ:

دَعْوَةُ الْمُرَّةِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

مُسْتَبَايَةِ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلِكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا

دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلِكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ

أَمِينَ وَلَكَ بِسَلِّط (صحیح مسلم)

”دعا مسلمان بھائی کی واسطے مسلمان بھائی

اپنے کے پیٹھ پیچھے قبول کی جاتی ہے دعا کرنے والے کے سر کے پاس ایک فرشتہ معین کیا جاتا ہے۔ جب دعا مانگتا ہے اپنے بھائی کے لئے بھلائی کی تو کہتا ہے فرشتہ معین کیا گیا اس کی دعا، کے ساتھ آمین۔ (اے اللہ قبول کر دعا اس کی، اور دعا کرنے والے کو) کہتا ہے اور تیرے لئے (بھی) اس کی مثل ہے۔

نوٹ مسلمان بھائی جب اپنے مسلمان بھائی کے لئے منہ میں یا پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو چونکہ بغیر کسی غرض اور لالچ کے کرتا ہے۔ محض خلوص، خیر خواہی اور ہمدردی سے کرتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، بلکہ ایک فرشتہ کو معین کر دیتا ہے جو دعا کے ساتھ آمین کہتا ہے۔ پس قبولیت یقینی ہوتی۔

حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کے لئے اجازت چاہی۔ حضورؐ نے اجازت دے دی۔ جب حضرت عمرؓ پورے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا:

أَشْرِكُنَا بِأَخِي فِي دُعَائِكَ وَلَا تَنْسَنَا

ابوداؤد
ترمذی

"شریک کرنا ہم کو اے میرے چھوٹے بھائی اپنی

دعا میں ، اور نہ بھولنا ہم کو (اپنی دعائیں)۔"

رحمت للعالمین سے اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کو دعا کے لئے کہا۔ اس میں دو باتیں قابلِ غور ہیں۔ ایک تو مقامِ بندگی میں حضورؐ نے عاجزی اور مسکینی ظاہری کی۔ سید الکونین والشقلین ، سید ولد آدم ہو کر حضرت عمرؓ کو دعا کے لئے کہا۔ کروڑوں درود اور سلام ہوں ان خانم النبیین کی روح پاک پر۔

دوسری بات یہ کہ لوگوں کو رغبت دلائی ؛ کہ اچھے لوگوں ، موحدوں ، عابدوں ، پرہیزگاروں ، مخلصوں سے جو یقید حیات ہوں ، دعا کی طلب کیا کریں۔ اور یہ بھی ہدایت ہوئی کہ دعا صرف اپنے لئے ہی نہ ہو بلکہ شریک کریں دعا میں اہل قرابت اور احباب کو بھی ، اور خاص کر ان دعاؤں میں جو قبولیت کے مقاموں اور وقتوں میں کی جائیں۔

وہ دعا جو غائب ، غائب کے لئے کرتا ہے ، قبول ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں نمود و ریا نہیں ہوتی۔ نرا خلوص ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت انور فرماتے ہیں :

إِنَّا أَسْرَعُ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دَعْوَةَ غَائِبٍ

لِغَايِبٍ (ترمذی شریفہ)

(ترجمہ) ”میشک بہت جلد قبول ہونے والی دُعا

غائب کی ہے واسطے غائب کے“

پسے رشتہ داروں، دوستوں، محبتوں کو ایک دوسرے کے لئے غائبانہ طور پر دعا کرنی چاہیے۔ اپنی نیک دعاؤں میں انہیں شریک کرنا چاہیے کہ خیر خواہی کرنا مسلمان کی، بڑا ثواب ہے اور اللہ کی رضامندی کا موجب ہے۔

متذکرۃ المصدر احادیث کی روشنی میں آپ نے دعا کی فضیلت - مرتبہ - قدر - بزرگی - ضرورت اور اہمیت ملاحظہ کی ہے۔ کہ دُنیا کی فانی زندگی میں انسان ہر لحظہ دُعا کا محتاج ہے۔ دعا سے ایک تو بندے کا اللہ سے رُوحانی تعلق قائم ہوتا ہے۔ دعا سے بندے کی انتہائی عاجزی زلت - بے بسی - لاچاری اور مسکنت ثابت ہوتی ہے اور یہی مقصود عبودیت ہے۔ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور بندے پر نظرِ رحمت کرتا ہے۔

یاد رہے کہ دعا کرنا - جدوجہد، تنگ و دو، محنت کاوش، کوشش اور حصولی اسباب کے منافی نہیں ہے جتنا اسلام نے دعا پر زور دیا ہے۔ اتنا ہی جدوجہد،

تنگ و دو اور مساعی پر دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

”لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (پ ۷ ع ۷)“

”نہیں ہے واسطے آدمی کے مگر جو کچھ اس نے سعی کی۔“

اس سے تنگ و دو اور سعی و عمل کا سبق دیا ہے۔ پھر فرمایا:

”خُذُوا حِذْرَكُمْ (پ ۷ ع ۷)“ ”لو بچاؤ اپنا“

یعنی دشمن کے مقابلہ میں مسلح ہو کر نکلو۔ گویا جس طرح یورپ نے اسباب کی فراہمی، سائنس کی ایجادات اور کمالِ تنگ و نماز سے دنیا میں ایک مقام پیدا کر لیا ہے۔ بالکل اسی طرح کی سعی و عمل کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔ سچ پوچھئے تو ان لوگوں نے ان مساعی جمیلہ اور جدوجہد کا سبق قرآن سے سیکھا ہے۔ لیکن افسوس! کہ وہ مادی ترقی اور اسباب کی فراوانی میں ڈوب کر رہ گئے اور ان پر تنگیہ کر کے مسبب الاسباب کو بھلا بیٹھے۔ آخرت کا کچھ دھیان نہ رہا۔

اسلام نے جہاں دوڑ دھوپ اور سعی و عمل پر از حد زور دیا ہے۔ وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ بھروسہ اپنی کوشش اور اسباب پر مت کرنا۔ بھروسہ اور تکیہ اللہ واحد القہار پر رکھنا۔ کیونکہ انسان کی کوشش اور اسباب صرف اس

وقت بار آور ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے۔ وہ نہ چاہے تو کوشش اور اسباب ناکام ہو کر رہ جاتے باوجود کمال احتیاط اور حزم کے ریل گاڑیاں ٹکراتیں۔ طیارے گرتے جہاز ڈوبتے، بسیں، لاریاں، ٹرک، موٹریں، سکوٹر، سائیکل تانگے، — حادثوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ ہر وقت انسان کی زندگی ترساں اور لرزاں ہے۔ کیا ضمانت ہے اس بات کی کہ انسان فردا دیکھے گا۔ فردا تو بہت دور ہے۔ اگلا سانس ہی اُسے گا۔؟

چونکہ انسان کی زندگی، اس کے شب و روز، اور ہر حرکت اللہ کے بس میں ہے اور عاجز انسان اسی کے رحم و کرم پر ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ بے بس اور لاچار انسان اللہ علیٰ کلّ شیءٍ قَدِیر کے دروازہ پر ہمیشہ ناہیبہ فرسا رہے۔ اس کی جناب میں دعائیں کرتا کرتا رہے۔ ہاتھ پھیلائے رکھے۔ مانگتا رہے۔ در مولا کی گدائی میں اپنی عزت، وقار، ترقی اور دارین کی فلاح مضر جانے سے

اسی کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن

اسی کے فیض سے میرے سب میں ہے جمیوں

اللہ تعالیٰ کے آخری رسول سید المرسلین، رحمت للعالمین

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی دعاؤں کے سہارے گزارے ہیں۔ سعی و عمل کے کھنشاں گیر درس کے ساتھ رات دن — چلتے پھرتے — اٹھتے بیٹھتے — کھاتے پیتے — ہر گھڑی اور ہر لمحہ رب الارباب کے حضور دعاؤں - التجاؤں اور مناجاتوں میں سکون قلب پایا ہے۔ کوئی وقت ، کوئی گھڑی ، کوئی موقعہ ، کوئی محل ، کوئی محفل ، کوئی تقریب ایسی نہیں جہاں رحمتِ عالم کی دعاؤں کے فانوس جگمگا نہ رہے ہوں۔ پیدائش سے لیکر موت تک ، زندگی کے ہر شعبہ ، گوشہ ، زاویہ اور احوال و ظروف میں راہِ رواۃ جادۃ اسری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی التجاؤں ، پکاروں اور دعاؤں کے سدا بہار پھول بہار دکھلا رہے ہیں۔ جن سے ایمان کیف پا رہا ہے اور روح کوثر و تسنیم کی موجوں میں نہا رہی ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کی دعاؤں کا جو مقام اور درجہ ہے وہ تمام انبیا اور ساری اولادِ آدم کے صالحین کی دعاؤں کا نہیں ہو سکتا۔ کتنی خوش قسمت ہے امتِ محمدیہ — کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے غلامۃ کائنات — حافظ ناموسِ آدم — سید الکونین

سید ولدِ آدم - ایک لاکھ کئی ہزار نبیوں کے قائد اور امام ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عنایت کی ہے۔ خواجہ بزرگین کی رسالت کا کلمہ اور آپ کا قول و فعل نصیب کیا ہے ، اور آپ کی زبان - وحی سے بولنے اور حرکت کرنے والی زبان نے جو دعاؤں کے موتی روئے ہیں - یہ خزانہ بھی اس امت کو ہی ورثہ میں ملا ہے۔ لیکن امت اس خزانہ کو بھلا بیٹھی۔ جوہرات کو چھوڑ کر نقل موتیوں کی مالا چھینے لگی۔ آرٹیفیشل جیولری پر لڑو ہو گئی۔ رجال امت کی صنایاں انکسوں میں بھاگئیں لوگ وضعی دعاؤں ، درودوں اور وظیفوں میں مشغول ہو گئے۔

یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ جتنا درجہ اور مرتبہ رحمتِ عالم کا ہے۔ بالکل وہی حیثیت آپ کے اقوال و افعال، اوراد و وظائف اور دعاؤں کی ہے۔ نہ کوئی شان میں حضور کا ہمسر۔ نہ آپ کی دعاؤں کا جواب - حضورِ اور نے جہاں قدم رکھا وہ قیامت تک ہدایت کی تندیل بن گئی ، اور جو الفاظ منہ سے نکلے ، ان سے جہاں تا نورنیرین معبر ہو گیا۔ تنفس پاک کی عنبر فشانیاں - اور دعاؤں کی عطر بنی امت کے لئے بہار ایمان ہیں۔

مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خیر خواہی کے لئے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں، وردوں اور وظیفوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے۔ اور اس مجموعے کا نام

حزب الرسول

رکھا ہے۔ یہ دعائیں ہم نے حدیث کی معتبر کتابوں سے جمع کی ہیں جو سب کی سب سند کے اعتبار سے صحیح اور ثقہ ہیں۔ حصن حصین۔ حزب الاعظم۔ اذکار نووی۔ درمنثور۔ سیوطی۔ جامع کبیر۔ جامع صغیر۔ قول البدیع۔ سخاوی۔ دلائل الحیرات۔ لعل الیوم واللیلۃ۔ بخاری۔ مسلم۔ ابوداؤد۔ ابن ماجہ۔ نسائی۔ ترمذی۔ دارمی وغیرہ سے اس گنجینہ کو موتیوں سے بھرا ہے۔

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ احسن الحدیث ہے۔ اس میں بھی دعائیں آئی ہیں جو حضور انورؐ مانگا کرتے تھے۔ اس لئے ہم نے بھی سب سے پہلے قرآنی دعائیں رکھی ہیں۔ اس کے بعد رحمت عالم کی فرمودہ دعائیں ہیں اور اخیر میں درود شریف ہے۔

پڑھنے کے متعلق گزارش ہے کہ اگر کوئی صاحب سارا حزب ہر روز پڑھ سکیں تو پڑھ لیا کریں اور اگر سارا روز

نہ پڑھ سکیں تو ہر روز ایک منزل پڑھ لیا کریں۔ ہم نے سات منزلیں متعین کر دی ہیں۔ شنبہ سے شروع کر کے جمعہ تک سات دنوں میں پورا حزب پڑھ لیا کریں۔ اس طرح آسانی رہے گی۔

شروع کرنے سے پہلے اس کو ناظرہ کے طور پر پڑھ لیں تاکہ تلفظ صحیح ہو جائے اور روانی آجائے۔ پھر نہایت ضروری ہے کہ اسکا ترجمہ بھی یاد کریں۔ ہر دعا کا آپ کو ترجمہ بھی ضرور اُنا چاہیے۔ تاکہ ورد کے دوران آپ سمجھ سکیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؛ بار بار تاکید ہے کہ اسکا ترجمہ ضرور، ضرور، ضرور یاد کریں۔ ہم نے ہر دعا کا حوالہ دیا ہے اور نیچے ترجمہ لکھا ہے اور حاشیہ پر ضروری نوٹ دیئے ہیں۔

حجاج کرام کو خوشخبری
 حزب الرسول گھروں میں پڑھنے کے علاوہ اگر حجاج کرام سفر حج میں اپنے ساتھ لے جائیں اور قیام مکہ کے دوران مسجد حرام میں ہر روز ایک بار بعد نماز ظہر یا عصر پڑھ لیا کریں۔ تو بڑی سعادت ہوگی۔ پھر مدینہ منورہ جا کر مسجد نبوی یا روضۃ من ریاض الجنۃ میں بیٹھ کر ہر روز ایک بار پڑھ لیں اور عرفات کے میدان میں بھی با دیدہ تہ پڑھ لیں تو ان کی نیکیاں اور اللہ

کی رضامندیاں آسمانوں، اور زمین کے خلاؤں میں سما سکیں گی۔ اُس
خوش بخت عازم حج کے کیا ہی کہنے جس کو یہ سعادت اور کرامت
نصیب ہو۔

ان دعاؤں اور وظیفوں کے پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں اور دنیا کے کاموں کے لئے
کوئی کوشش نہ کریں۔ یاد رہے کہ اپنے اپنے کاروبار اور
مشاغل میں پوری سعی کریں۔ حصول معاش کے لئے خون پسینہ
ایک کر دیں۔ ہر امر کے لئے جدوجہد لازم جائیں۔ تمام علوم و
فنون پڑھیں۔ سائنس کی ترقیوں کی شاہراہوں پر دوڑیں اور ساتھ
ہی اپنے پیارے دین اسلام پر عمل بھی کریں۔ عبادات، اور
اخلاق کی فضا میں جیشیں اور مسلمان مریں۔ لمحہ بھر اللہ کو نہ بھولیں
کہ

عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو
کچھ ہاتھ نہیں آتا بے اہ سحر گاہی

محمد صادق سیالکوٹی

ستمبر ۱۹۶۵ء

جمادی الاول ۱۳۸۵ھ

دُعا کے آداب و شرائط

یاد رہے کہ جب تک آدمی عقیدہ توحید کا پابند نہ ہو - اسکا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتویں پارے ، سورہوں رکوع میں اٹھارہ پیغمبروں کے نام گنا کر فرمایا ہے : **هَذَا يَنْهَى رَأَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** - "ان سب کو ہم نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی" آگے فرمایا :

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 "یہ ہے ہدایت اللہ کی ، راہ دکھاتا ہے ساتھ اس کے جسکو چاہے اپنے بندوں سے اور اگر (یہ اٹھارہ پیغمبر) شریک کرتے (کسی غیر اللہ کو ساتھ اللہ کے) البتہ ضائع ہو جاتے انکے سارے اعمال"

معلوم ہوا شرک سے اعمال مٹ جاتے ہیں۔ نماز ، روزہ ، حج ، زکوٰۃ ، صدقات ، خیرات ، تہجد ، اشراق ، دعائیں ، ورد و وظیفے سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ہر مسلمان کا عقیدہ صحابہؓ کی مانند پورا پورا توحید کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اس کی تولی ، بدنی اور مالی عبادات میں کسی کو شریک نہیں کرنا

چاہیے۔ قول، فعل، ذہن، خیال، تصور، نیت، ارادہ
 میں کسی کو اللہ کا مقام نہ دینا چاہیے۔
 اسی طرح بدعت سے بچنا بھی لازمی ہے کہ رحمتِ عالم فرماتے ہیں:-

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لِصَاحِبِ بَدْعَةٍ صَوْمًا وَلَا صَلَاةً
 وَلَا صَدَقَةً وَلَا حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَلَا جِهَادًا
 وَيُخْرِجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةَ
 مِنَ الْعَجِينِ (ابن ماجہ)

”اللہ تعالیٰ بدعتی آدمی کا نہ روزہ قبول کرتا ہے نہ
 نماز اور نہ زکوٰۃ و خیرات اور نہ حج اور نہ عمرہ،
 اور نہ جہاد۔ اور بدعتی اسلام سے ایسے نکل جاتا
 ہے جیسے بال گوندھے ہوئے آٹے سے نکل جاتا
 ہے“ (ابن ماجہ)

بدعت کے معنی ہیں اسلام میں نیا مسد گھڑنا، اور اس
 پر عمل کرنے کو ثواب بنانا۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے۔
 سرکاری سکول (احادیث و سنن) میں جعلی سکے (گھڑیوسائل)
 بنا کر ملانا اور رواج دینا۔ اللہ تعالیٰ بدعتی کا کوئی عمل
 قبول ہی نہیں کرتا۔ تو سب بھائیوں اور بہنوں کو شرک
 اور بدعت کے کاموں اور اعتقادوں سے بال بال بچنا

حاجت کہ شرک اللہ تعالیٰ سے مقابلہ ہے۔ اور بدعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹھ بھڑ ہے۔

شرک اور بدعت سے اجتناب کے بعد تیسری بات اکل حلال ہے۔ یعنی روزی حلال ہو کہ حرام روزی سے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سفر کرتا ہے، پراگندہ بال، غبار آلودہ، دراز کرتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ طرف آسمان کے کہتا ہے۔ اے رب میرے۔ اے رب میرے! (میری حاجت روائی کر، مشککشائی فرما)۔ حضورؐ فرماتے ہیں کہ کھانا اسکا حرام ہے اور پینا اسکا حرام ہے اور لباس اسکا حرام ہے اور حرام کے ساتھ وہ پرورش کیا گیا ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ اِیْسے شخص کی دعا کہاں سے قبول کی جائے۔ (صحیح مسلم)

اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا کھانا پینا، اور لباس بال حلال سے ہونا چاہیے تاکہ اسکی دعائیں رنگ لائیں۔

چوتھی بات یہ یاد رکھیں کہ زبان کو جھوٹ سے بچائیں۔ اکل حلال کے ساتھ صدق مقال ضروری ہے، ایسے ہی

غیبت اور بہتان اور دوسرے ردائل سے بھی پوری طرح
 مجتنب رہیں۔ بلکہ آنکھوں، کانوں، ہاتھوں، پاؤں اور زبان
 پر کڑا پہرہ رکھیں۔ یہ اعضا اللہ کی مرضی کے مطابق حرکت
 کریں۔ ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ خیالات
 پاکیزہ ہوں۔ اخلاق نیک، طہارت ظاہری و باطنی لازم جائیں۔
 بندگانِ خدا کے حقوق کا خیال رکھیں۔ کسی پر ظلم اور زیادتی نہ
 ہو۔ مقدور بھر صدقات و خیرات بھی کرتے رہیں۔

جب آپ دعائیں پڑھیں یا وظیفہ شروع کریں تو اس کے
 ترجمہ کی طرف دھیان رکھیں اور پورے خلوص، خشیت، توجہ،
 استحضار اور فلک بوس یقینِ اجابت سے پڑھیں۔ گویا
 آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔
 اور آپ اسے سنا رہے ہیں۔ اس سے منت سماجت
 کر رہے ہیں۔ مانگ رہے ہیں۔ گدا کر رہے ہیں۔
 پوری عاجزی، بے بسی، لاچارگی، اضطراب اور کرب کی
 حالت میں اس کے حضور حاضر ہیں۔ عہدِ ذلیل، رپ جلیل
 کے باپ رحمت کو دستک دے رہا ہے۔

بہ شبِ دریں امیدم کہ نسیم صبحِ گاہی
 بہ پیامِ آشنائے بنوازد آشنایا

دُعاؤں کا محل وقوع

ارشادِ خداوندی ہوتا ہے :

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ
الشُّوْبَةَ (پ ۱ ع ۱)

”کیا ہے کوئی جو بے قرار و لاچار کی فریاد کو سنے
جب کہ وہ اُسے پکارے اور (پھر) وہ تکلیف
(اس سے) دور کرے“

مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اسکی مخلوق کی دُعا
اُہ و زاری۔ گڑ گڑاہٹ اور گریہ و فغاں سننے والا، اور
مصائب و نوائب دُور کرنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ
کے سوا تمام انسان نبیوں سے لے کر اُمتوں تک سب
کے سب اللہ کے محتاج اور زندگی رواں دواں رکھنے کے
لئے اس کے در کے سوا ہی ہیں اور ان سب بزرگ ترین
ہستیوں اور اولیاء اللہ پر تکلیفوں، مصیبتوں، رنجوں،
غموں، بیماریوں، لاچاروں اور محتاجیوں کے پہاڑ گرے۔
ان بندگانِ خدا نے (اللہ کا ان پر درود و سلام ہو) اللہ ہی
کے در پر گر کر دعائیں مانگیں۔ انتہائی عاجزی اور خلوص

وخصیت سے صاحبِ جلال و جبروت کے در پر دستک دی۔
 اہ نیم شبی اور گریہ سحرگاہی سے رحم کی درخوہستیں گزرائیں۔
 تو مجیب الدعوات ذات نے ان کے غم و الم کی بدلیاں چھٹا
 دیں۔ تاریک رات کے سینے سے فرحت و انبساط۔ اور
 حاجت رواٹیوں کی عیدوں کا سپیدہ پھوٹ نکلا۔ مذکورہ
 آیت سے اُنکے اللہ ارشاد فرماتا ہے: **عَوَّلَهُ مَعِ اللّٰهِ**۔ کیا
 اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود (حاجت روا) بھی ہے؟ یعنی ایسا
 معبود و حاجت روا جو لاچاروں کی دعا سُنتا، اور ان کا دکھ
 دُور کرنا ہو؟ اس سوالیہ کا جواب زندہ ضمیر یہی دے گی کہ:
 اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں حاجت روا، مشککش۔ عاجزوں
 لاچاروں، بے بسوں اور پریشان حالوں کی اہ و قفاں سننے والا
 اور ان کی بگڑھی بنانے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی زندگی پاک پر نظر ڈالئے۔ سوا لاکھ صحابہ رضی
 شب و روز کا مطالعہ کیجئے۔ کربلا کے میدان کا نقشہ دیکھئے
 تو آپ پر یہ حقیقت منکشف کہ ہو جائے گی کہ اترنے والی
 مصائب کو روکنے والا، اور نازل شدہ نواب کو دُور کر نیوالا
 بجز اللہ واحد القہار کے کوئی نہیں ہے۔

ارشادِ خداوندی ہوتا ہے:

وَالَّذِينَ سَبَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ

نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (پ ۴ ع ۱۴)

” اور جن کو تم (لاجاریوں اور پریشانیوں میں) اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ وہ نہ تو اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔“

معلوم ہوا۔ دعا اور پکار صرف اللہ ہی کے آگے ہونی چاہیے کسی غیر کو نہیں پکارنا چاہیے۔ یہ حکم اللہ دے رہا ہے۔ مزید سنئے :

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا - (پ ۶ ع ۱۱)

”پس مت پکارو ساتھ اللہ کے کسی کو“

أَحَدًا - نکرہ ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا اس کی ساری مخلوق میں سے کسی کو نہ پکارو۔ 'أَحَدًا' میں پر غیر اللہ آگیا۔

مزید ارشاد ہوتا ہے :

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ

فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الْغَالِبِينَ (پ ۷ ع ۱۶)

” اور نہ پکار اللہ کے سوا اس کو جو نہ نفع دے سکے تجھ کو اور نہ ضرر پہنچا سکے تجھ کو، پھر اگر تو نے ایسا کیا۔ یعنی اگر کسی غیر اللہ کو پکارا، تو تم اس وقت ظالموں سے ہو جاؤ گے۔“

اس آیت سے ثابت ہوا کہ کوئی بھی فوق الاسباب طور پر نافع اور ضار نہیں ہے۔ پس ان کو پکارنا ظلم ہوا۔

فرمان ایزدی ہے :

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۝ (ربّ ع ۱)

» اور اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ بنے جو (مصبیوں اور عملوں میں) اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک ان کو جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہیں «

یہ آیات صاف بتا رہی ہیں کہ دعا و پکار اور آہ و فغاں —

عملوں، افردہوں اور لاجاپریوں میں صرف اللہ ہی کے حضور کرنی چاہیے۔ کسی غیر اللہ کے اگے دعا و پکار کرنی اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ تو یہ عقیدہ قرآن کے حکم کے مطابق دل میں جمائیں کہ دعا و پکار — عملوں، فکر و میں اللہ ہی کی جناب میں کریں۔ کبھی کسی غیر اللہ کو نہ پکاریں کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی منع ہے۔ جس کو اللہ نے اوپر کی آیت میں ظلم فرمایا ہے۔

اسی لئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ہماری جانیں آپ پر فدا ، ماں باپ فدا ، دنیا اور عقبے تصدق ، بے شمار دعائیں اللہ کے آگے کی ہیں ہر ہر بات کے لئے ، ہر گھڑی ، ہر آن اللہ ہی کو پکارا ہے ، اور امت کو اپنے عمل سے یہ درس دیا ہے کہ وہ بھی ان دعاؤں کے ساتھ ہی اللہ سے حاجت روائی چاہیں ۔ دنیا و دین کی بھلائیاں اور خوبیاں مانگیں ۔

تو جو لوگ رجال امت کی بنائی ہوئی دعاؤں یا وظیفوں کو پڑھتے ہیں ۔ انہیں چاہیے کہ ایسی سب چیزوں کو چھوڑ کر :
حزب الرسول باقاعدہ پڑھا کریں کہ اس میں سب دعائیں جناب سید المرسلین ۔ خاتم النبیین ۔ رحمت للعالمین ۔ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہیں ۔ جس طرح رحمت عالم کے مرتبہ کا اولاد آدم میں کوئی شخص نہیں ہے ۔ ایسے ہی حضور کی دعا کے مرتبہ کی کسی کی دعا نہیں ہو سکتی ۔ ترازو کے ایک پلڑے میں سرور کائنات کی دعاؤں کو رکھیں ، اور دوسرے پلڑے میں ایک لاکھ کئی ہزار پیغمبروں اور ان کی تابع امتوں کی دعاؤں کو رکھیں تو پلڑا خواجہ کونین کی دعاؤں کا ہی بھاری ہوگا ۔

پیرِ مغان سنبل کے ادب کا مقام ہے
 آتے ہیں سیکدہ میں قدحِ خوار مصطفیٰ

قرآن کی آیتوں میں سراپا ڈھلا ہوا
 تمثیل بے مثال ہے کردار مصطفیٰ
 سجدوں کی چاندنی سے جنینیں نکھر گئیں
 آنکھوں میں بس گئے درد دیوار مصطفیٰ
 ڈھلنے لگی ہے سورہ واللیل میں صبا
 کھلنے لگے ہیں گیسوٹے خمدار مصطفیٰ
 (شورشے)

تو آپ ہی انصاف کر لیں کہ جہاں حافظ ناموس آدم خواجہ
 بدر دین ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 زبان کے موتی بھرے ہوں۔ حدیثوں کے پھول کھلے اور
 دعاؤں کے نغمے عنبر فشاں ہوں۔ آفتاب نبوت شو ریز
 اور بدرِ منیر کی چاندنی حسنِ عالم کو نکھار رہی ہو۔ سراجاً منیراً
 گھر گھر اجالا کرے ، اور مرورِ حیات ہر گام اور ہنگام پر
 پڑ پشوا ہو اور پھر جب

بکھر گئے ہیں فضاؤں میں نغمہ ہائے طرب
 سراپا صبح منور ہوئی ہے ظلمتِ شب !

وہاں رجالِ اُمت کے ساختہ وظائف کی کیا ضرورت باقی
 رہ جاتی ہے۔

جو موحد مسلمان — اچھے کردار ، اعلیٰ اخلاق ، صوم و صلوة

اکلِ حلال اور صدقِ مقال کی پوری پوری پابندی کے ساتھ ہاتھوں ، پاؤں ، آنکھوں ، کانوں اور زبان پر کڑا احتساب کر کے ۔
 جھوٹ ، وعدہ خلافی ، غیبت ، بہتان ، حسد ، تکبر ، کینہ ، دھوکا ، فریب ، حق تلفی اور ایذا رسانی سے بچتے ہوئے "حزب الرسول" کو (ترجمے پر غور کر کے) خلوص اور حضورِ قلب سے ہر روز پڑھے گا ۔ انشاء اللہ وہ شخص دنیا اور دین کی کامیابیوں اور کامرائیوں کی معراج کو پالے گا ۔ اللہ تعالیٰ اُسے نعموں ، فکروں ، مصیبتوں ، ابتلاؤں ، بلاؤں ، محتاجیوں ، پریشانیوں ، دکھوں ، دردوں ، مرضوں ، کریبوں ، لانچاریوں ، دینی غفلتوں اور کسلوں سے نجات دے گا ۔ اسے حیاتِ طیبہ کے ساتھ زندہ رکھے گا ۔ اس کی حیاتِ مستعار کا ہر لمحہ برکت سے معمور ہوگا ۔ تمام کام دنیا اور دین کے اس پر سہل اور آسان ہوں گے ۔ رب العزت کی طرف سے اسے بشارتیں ملیں گی اور قربِ خدا حاصل ہوگا اور اللہ کے فضل سے یہ مردِ مومن : اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ؕ کے زمرے میں داخل ہو جائے گا ۔ (اللہ ! ہم سب کو یہ مرتبہ نصیب کر ! آمین) ۔

دُعاؤں کے نغموں کا رس

جب آپ قرآن پڑھ کر یا حزب الرسول پڑھ کر یا نمازوں کے بعد دعا مانگیں تو اس طرح مانگیں :

کہ دونو ہاتھ اٹھائیں۔ ان کو کشادہ کریں۔ چہرے اور دونوں کندھوں کے برابر اٹھائیں۔ ہاتھوں کو اتنی ڈراز کریں کہ بغلیں کھل جائیں۔ کندھوں سے زیادہ بلند نہ کریں۔ بس چہرے کے سامنے رہیں۔ اللہ کی حمد، اور رسول رحمت پر درود پڑھ کر دعا کریں اور ختم بھی حمد و صلوة پر کریں۔ دعا مانگتے وقت بڑی عاجزی، انکساری، تضرع، گڑگڑاہٹ، خضوع و خشوع اور حضور قلب سے اللہ کو پکاریں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا: اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا - پکارو اپنے رب کو گڑگڑا کر۔“

نیز ارشاد ہوتا ہے :

رَأْتُمُوهُمْ كَانُوا يَسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا

دَعْبًا وَرَهْبًا

وہ (نیک اور متقی) لوگ دوڑتے تھے نیکیوں کی

طرف اور پکارتے تھے ہم کو شوق و رغبت اور

دُرسے“

تو دعا کرتے وقت بڑے شوق اور خوف سے ، اللہ سے مانگنا چاہیے ۔ اس طرح اللہ سے مانگیں کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں ۔ اس کے پاس حاضر ہیں اور اللہ آپ کی باتیں سن رہا ہے ۔ آپ کی ہر ہر حرکت دیکھ رہا ہے ۔ آپ کے ذہن ، خیال ، تصور ، نیت ، ارادہ پر اس کی نظر ہے ۔ دعا کرتے وقت آپ پر استغراق کی حالت طاری ہو جائے اور آپ اس طرح محویت کے عالم میں گم ہو جائیں کہ سوائے ذاتِ لم یزل کے آپ سب کچھ بھول جائیں آپ کا رُوں رُوں دعا بن کر پکار اُٹھے :

اس عزم و یقین کے ساتھ کہ مالک اور داتا اپنے فضل سے ضرور جھولی میں خیر ڈالے گا اور آپ اصلاً اس کے دراجابت سے خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے کہ وہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب اُخر کرتے ہیں خطاب اُخر اُٹھتے ہیں حجاب اُخر

اوقاتِ اجابت

دعا تو آدمی ہر وقت کر سکتا ہے اور اللہ اپنے بندے کی دعا ہر وقت، ہر گھڑی، ہر ساعت اور ہر آن سنتا ہے۔ اس کے دروازے سدا کھلے رہتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہیں کہ ان میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ اوقات اللہ یا اس کے رسول کے بتانے سے متعین کئے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

رَاتٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةٌ الدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابَةٌ

(ترمذی شریف، بیشک جمعہ کی رات میں ایک ایسی

گھڑی ہے۔ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔)

جمعرات کے علاوہ جمعہ کے دن میں بھی ایک ایسی ساعت ہے۔ ارشادِ نبویؐ ہوتا ہے:

رَاتٍ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ

يُمَسِّئِي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ (بخاری)

بیشک جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس مسلمان کو

وہ گھڑی نماز پڑھتے ہوئے مل جائے۔ اس میں وہ اللہ

سے دعا کرے تو اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے :-
 اذان کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم فرماتے ہیں :

ثِنْتَانِ لَا تُؤَدَّانِ الدُّعَاءَ عِنْدَ الْبَدَاءِ وَ
 عِنْدَ الْبَأْسِ ط (ابوداؤد) — " دو وقت ایسے ہیں
 کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایک تو اذان کا
 وقت اور دوسرا جنگ کا وقت "۔

اذان اور اقامت کے درمیان بھی دعا عموماً قبول ہوتی
 ہے۔ حضور فرماتے ہیں :

لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ط (ترمذی)
 " اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی "۔
 نزل الابراہیم حضور فرماتے ہیں کہ :

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔

جب نماز کے لئے جماعت گھڑی ہونے لگے تو اس وقت
 بھی قبول ہوتی ہے۔ ارشاد نبوی ہوتا ہے :

إِذَا تَوَلَّى بِالصَّلَاةِ فَتَحَّتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ
 وَاسْتَجِيبَ الدُّعَاءُ ط (رواہ احمد) جب اقامت کہی
 جائے تو اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیئے

جاتے ہیں۔ اور دعا قبول ہوتی ہے۔
 ترمذی شریف میں ہے کہ ایک شخص نے حضور انور ﷺ
 سے دریافت کیا کہ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے۔ آپ نے
 فرمایا:

جَوَافُ اللَّيْلِ وَدُبْرُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ

”پچھلی رات کو اور فرض نمازوں کے بعد“

تلاوتِ قرآن کے وقت اور قرآن کے ختم کرنے کے وقت
 بھی دعا عام طور پر قبول ہوتی ہے۔ ارشادِ رحمتِ عالم ہوتا

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْئَلِ اللَّهَ بِهِ فَإِنَّهُ

سَيَسْئَلُهُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْئَلُونَ بِهِ

النَّاسُ (ترمذی)

”جو شخص قرآن پڑھے۔ اسے چاہیے کہ وہ قرآن کے
 ساتھ صرف اللہ ہی سے سوال کرے۔ ہاں ایک نماز
 اُسے گا کہ اس میں لوگ قرآن پڑھیں گے اور لوگوں
 سے مانگیں گے۔“

قرآن پڑھنے کے وقت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ خوب
 خوب اللہ سے مانگئے۔ جو لوگ قرآن کو ذریعہ سوال بنائے
 ہوئے ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ قرآن پڑھ کر یا ختم کر کے

لوگوں سے مانگنا بہت بُرا ہے۔

سجدے کی حالت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضورؐ فرماتے ہیں: **أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ** **فَاكْتُرُوا الدَّعَاءَ** (ترمذی)

بندہ سجدے کی حالت میں اپنے پروردگار سے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ تو سجدے میں کثرت سے دُعا کیا کرو۔ اوقات ذیل میں دُعا قبول ہوتی ہے۔ حضورؐ فرماتے ہیں۔ روزہ دار کی دعا جس وقت وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ بارش کے وقت!

اَب زَمَزَمِ پیتے وقت! (حصن حصین - ترمذی)

بُرُغ کی اذان کے وقت۔

امام کے **وَلَا اَلْفَائِن** پڑھ کر اَمین کہنے کے بعد۔

مسلمانوں کے اجتماع کے وقت۔

ذکر کی مجلسوں میں!

کعبہ کی زیارت کے وقت۔

مطاف میں۔ یعنی طواف کرنے کی جگہ میں۔

ملنزم کے نزدیک

کعبہ کے پرنا لے کے نیچے

خانہ کعبہ کے اندر۔

زمرزم کے نزدیک !

صفا اور مروہ پر !

مسعی میں ، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کی جگہ میں۔
مقام ابراہیم کے پیچھے۔

عرفات میں - مزدلفہ میں - منایں - تینوں جمروں کے پاس۔

مظلوم کی دعا - دُعا حج کرنے والے کی جب تک واپس آئے

نیک بخت آدمی کی دعا - باپ کی دُعا - بادشاہ عادل کی دعا -

والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والی اولاد کی دعا - مسافر

کی دُعا - لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ

الظَّالِمِينَ ۵ پڑھنے والے کی دُعا۔

مندرجہ ذیل اسمِ اعظم پڑھنے والے کی دُعا :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ

وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

مندرجہ ذیل پڑھنے والے کی دُعا:

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ط

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۶ (تین بار)

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ پڑھنے والے کی دعا۔

سچے دل سے توبہ کرنے والے کی دُعا۔

رحمت عالم فرماتے ہیں :


”گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے
جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔“
(حصن حصین)

پیارے بھائیو!

یاد رکھو! کہ ہر قسم کی عبادت کی منظوری اور خصوصاً
دعاؤں کی قبولیت حلال کی روزی کھانے - سچ بولنے ،
اور خدا کی نافرمانیوں سے بچنے پر موقوف ہے ۔ پھر
کوشش کریں اور جان توڑ کوشش کریں کہ قرآنی مردِ مومن
کے اوصاف و اخلاق پیدا ہوں۔

لا پھراک بار وہی بادہ و جام اے ساقی
ہاتھ آجائے مجھے میرا مقام اے ساقی
داقبال





ساتی نواؤ نکہت و نزیہت کا وقت ہے
اب تو حریمِ سانسِ زمینا کا در کھلے

منزل پہلی — شنبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ اللہ کے شیطان رائے موٹے سے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو۔ نختے والا مہربان ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ○

ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کیلئے ہے (جو) سب جہانوں کا پروردگار (ہے)

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ مَا لِكَ یَوْمِ

نہایت رحم والا مہربان ہنگ ہے روز

الَّذِينَ إِيَّاكَ تُعْبُدُ وَإِيَّاكَ

جزا کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے

نَسْتَعِينُ ○ وَهُدًى نَا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ○

مدد مانگتے ہیں دکھا ہم کو (دین کا) سیدھا راستہ

صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ

راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا نہ ان کا

الْمَغضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ○

جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ راستہ گمراہوں کا۔

۱۔ اللہ کے قانون پر چلنے والے، اسکی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے عامل لوگ مراد ہیں جیسے نبی، صدیق، شہید، صالح لوگ

(علیہم السلام)

۲۔ اللہ کے قانون اور احکام سے بغاوت اور اسکے رسولوں کی مخالفت

کرنیوالے لوگ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ وہ مذاہبوں سے ہلاک ہو گئے

۳۔ گمراہ وہ لوگ ہیں جو راہ راست بھول کر ٹیڑھے راستے پر چلنے لگیں، اور

سیدھا راستہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ گمراہ لوگوں

سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ

اے رب ہمارے قبول کر ہم سے تحقیق تو ہی سننے والا

الْعَلِيمُ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ

جاننے والا ہے اللہ ہی ہے نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے

الْقَيُّومِ ۝ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا

اسکے سوا سب کا تقاضے والا۔ نہیں پکڑتی اس کو اونگھ اور نہ

نَوْمٌ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا

نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔

فِي الْأَرْضِ ۝ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ

کون ہے جو اس کے حضور بلا

عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

اذن سفارش کر سکے جانتا ہے جو خلقت کے

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۝ وَلَا

اگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اور نہیں

يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا

احاطہ کر سکتے (لوگ) اس کے علم سے کچھ بھی

بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ

مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں

وَالْأَرْضِ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا

پر حاوی ہے اور ان کی حفاظت اس (پاک ذات)

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ وَالْحَمْدُ

کو تھکتی نہیں اور وہ بلند اور بڑا ہے اور معبود تمہارا

إِلَهُ ۚ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ

معبود ایک ہے نہیں کوئی معبود سوائے اُس کے بڑا مہربان

الرَّحِيمُ ۝ الْم ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ

نہایت رحم والا اللہ ہی ہے نہیں کوئی

إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ رَبَّنَا آتِنَا

معبود سوائے اُس کے زندہ سب کا تھامنے والا اے پروردگار ہمارا

فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ

ہمیں دنیا میں (بھی) نیکی دے اور آخرت میں (بھی)

حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ رَبَّنَا

نیکی دے اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے پروردگار

أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا

ہمارے ہم پر صبر اندھیل دے اور ثابت قدم رکھ ہم کو

وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ رَبَّنَا لَا

اور مدد دے ہم کو کافروں کی قوم پر اے پروردگار

تُؤَاخِذُنَا إِنْ سَيِّئْنَا أَوْ أَخْطَاْنَا ۝ رَبَّنَا وَ

ہمارے نہ پکڑا ہم کو اگر مجھول جائیں یا چوک جائیں اے پروردگار

لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى

ہمارے اور نہ رکھ بوجھ ہم پر جیسے تو نے رکھا اُسے اُن لوگوں

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا

پر جو پہلے ہم سے تھے اے پروردگار ہمارے اور نہ اٹھوا ہم

لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا

سے اتنا بوجھ کہ نہیں طاقت ہم کو اس کی اور معاف کر ہم سے اور بخش ہم

وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَىٰ

کو، اور رحم کر ہم پر، تو ہے مددگار ہمارا، پس مدد دے ہم کو

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا

کافروں کی قوم پر لے پروردگار ہمارے تزیغ کر چمک

بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ

دلوں کو پیچھے اس کے کہ راہ دکھائی تو نے ہم کو اور عطا فرما ہم کو

رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّنَا

اپنی جناب سے رحمت بیشک تو بڑا دینے والا ہے لے پروردگار ہمارے

أَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ

بیشک ہم ایمان لائے ہیں (تجھ پر) پھر بخش دے ہم کو ہمارے گناہ اور بچا

النَّارِ ۝ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي

ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ کہہ لے اللہ مالک ملک کے دیتا ہے تو جس

الْمُلْكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ

کو چاہے اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہے۔

تَشَاءُ وَتُعْزِمْ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ

اور عزت دیتا ہے جس کو چاہے اور ذلت دیتا ہے

بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

جس کو چاہے، تیرے ہاتھ میں ہے خیر۔ بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے

تُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي

داخل کرتا ہے تو رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے تو دن کو

اللَّيْلَ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ

رات میں اور نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے

الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ

مردہ کو زندہ سے۔ اور رزق دیتا ہے جس کو چاہے

بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ

بغیر حساب کے سے پروردگار میرے عنایت کر مجھ کو

ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

جناب سے نیک اولاد بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ

اے ہمارے پروردگار ایمان لائے ہم ساتھ اس چیز کے کہ اتاری تو نے اور پیروی کی

فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا

ہم نے رسول کی پھر لکھ ہم کو ساتھ گواہوں کے۔ اے پروردگار ہمارے بخش ہم کو

ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ

گناہ ہمارے اور زیادتی ہمارے کام میں اور ثابت قدم رکھ ہمارے

أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

قدم اور مرد دے ہم کو کافروں کی قوم پر

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ

کافی ہے ہم کو اللہ اور اچھا کارساز ہے اے پروردگار ہمارے نہیں

هَذَا أَبَاطِلًا ۝ سُبْحٰنَكَ قِنَاعًا عَذَابِ النَّارِ ۝

سید کیا تو نے یہ (عالم) عبث۔ پاک ہے تیری ذات (فعل عبث سی پس بجا ہم

رَبَّنَا إِنَّا سَبِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي

اے پروردگار ہمارے بیشک سنا ہم نے ایک منادی کو نیوالے دیعنی

لِلْإِيْمَانِ أَنْ آمَنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا

پیغمبر کو منادی کرتے ہوئے ایمان کی کہ ایمان لاؤ اپنے پروردگار کیساتھ پس

رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا

ایمان لائے ہم۔ اے پروردگار ہمارے بخش دے ہم کو گناہ ہمارے اور دور کر ہم سے

سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا

برائیاں ہماری اور خانہ کر ہمارا (اپنے) نیک بندوں کیساتھ۔ اے پروردگار

وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا

ہمارے اور دے ہم کو جو کچھ کہ وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے اور نہ

تُخْرِزَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ

رسوا کر ہم کو دن قیامت کے۔ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں

الْبِعَادَةَ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً

اے پروردگار ہمارے اتار ہم پر ایک خوان

مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا

آسمان سے کہ ہو (وہ خوان) ہمارے لئے عید ہمارے پہلوں کیلئے

وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ

اور ہمارے پچھلوں کیلئے (بھی عید) اور (ہو) نشانی تیری طرف سے اور رزق دے

خَيْرُ الرَّازِقِينَ ○ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا

ہم کو اور تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اے پروردگار ہمارے ہم ایمان لائے ہیں

مَعَ الشَّاهِدِينَ ○ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ

پس لکھ لے ہم کو گواہوں کیساتھ اے پروردگار ہمارے نہ کر ہم کو

الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا

ظالموں کی قوم کے ساتھ تو ہے دوست ہمارا پس بخش ہم کو

وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ○ وَالْكِتَابِ

اور رحم کر ہم پر اور تو بہتر بخشنے والا ہے اور لکھ

لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ

ہمارے لئے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں (بھی)

إِنَّا هَدَيْنَاكَ إِلَيْنَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ

ہم نے توہ کی تیری طرف - اے پروردگار ہمارے ظلم کیا ہم نے اپنی

إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

جانوں پر اور اگر نہ بخشے گا تو ہم کو اور نہ رحم کریگا تو ہم پر البتہ ہو جائیں

الْخٰسِرِيْنَ ۝ رَبَّنَا افْتَمِّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ

گئے ہم خسارہ پانے والوں سے - اے پروردگار ہمارے فیصلہ کر ہمارے اور ہماری

قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ ۝

قوم کے درمیان ساتھ حق کے اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے -

رَبَّنَا افرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِيْنَ ۝

اے پروردگار ہمارے انڈیل ہم پر میرا اور مار ہم کو بحالت، مسلمان -

حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

کافی ہے مجھ کو اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ - اس پر بھروسہ کیا میں نے

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ عَلَى اللهِ

اور وہ ہے پروردگار عرش عظیم کا اللہ پر ہمارا

تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ

بھروسہ ہے۔ اے پروردگار ہمارے مت کر ہم کو فتنہ واسطے قوم

الظَّالِمِينَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ

ظالموں کے اور نجات دے ہم کو اپنی رحمت کے ساتھ کافروں

الْكَافِرِينَ ۝ رَبِّ اعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا

کی قوم سے اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ تیرے یہ کہ

لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ ۙ وَالْاْتَفِقُ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ

سوال کروں مجھ سے وہ چیز کہ نہیں ہے مجھے اسکا علم اور اگر نہ تجھے گا تو مجھ کو

اَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ

اور نہ رحم کر لگا تو مجھ پر جو جاؤنگا میں خسار پانے والوں سے۔ پیدا کر نیوالے آسمانوں

وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَّلِيٌّ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۙ

اور زمین کے تو ہی ہے بلا سزا میرا دنیا میں اور آخرت میں

تَوْفِىْ مُسْلِمًا ۙ وَالْحَقِّىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝

اٹھا لے مجھ کو (دنیا سے) اپنی فرماں برداری کی حالت میں اور ملائے مجھ کو نیک بندوں کی ساتھ

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي

اے رب میرے کر مجھ کو قائم رکھنے والا نماز کا اور میری اولاد کو (بھی)

رَبَّنَا وَتَقِيلُ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ

اے رب ہمارے اور قبول کر دعا میری اے رب میرے بخش دے مجھ کو، اور

وَالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ○

میرے ماں باپ کو اور (سب) ایمان والوں کو جس دن حساب ہونے لگے۔

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ○

اے رب میرے رحم کر میرے والدین پر جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے کو

رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ

پالا ہے۔ اے رب میرے داخل کر مجھ کو (مدینہ میں) داخل کرنا اچھا اور نکال

أَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي

مجھ کو (ظالموں کی بیٹی سے) نکالنا اچھا، اور اپنے ہاں سے مجھ کو دشمنوں پر فتحیابی

مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ○ رَبَّنَا إِنَّا

کے ساتھ غلبہ دے اے رب ہمارے دے ہم کو

مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا

اپنی جناب سے رحمت اور تیار کر ہمارے لئے ہمارے کام سے

رَشْدًا ۝ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَ

بھلائی اے رب میرے کھول دے میرے لئے سینہ میرا اور آسان

بَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝ إِنِّي

کر میرے لئے کام میرا۔ اے رب میرے زیادہ کر مجھ کو علم دے رب میرا بیشک

مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

پہنچی ہے مجھ کو ایذا (بیماری) اور تو بہت مہربان ہے سب مہربانوں سے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ

نہیں ہے کوئی معبود (مشکلتنا) سوائے تیرے پاک ذات ہے تیری بیشک

مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا

میں ظالموں سے ہوں - اے رب میرے نہ چھوڑ بھجھ کو اکیلا (بے اولاد)

وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝ رَبِّ أَنْزِلْنِي

اور تو بہتر وارث ہے - اے رب میرے اتار مجھ کو

مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝

اتارنا مبارک اور تو بہتر اتارنے والا ہے + اے

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

رب میرے پس نہ کر مجھ کو ظالموں کی قوم میں - اے

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ

رب میرے میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ تیرے شیطانوں کے وسوسہ

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ۝ رَبَّنَا

ڈالنے سے اور پناہ مانگتا ہوں ساتھ تیرے اے رب سیر کہ حاضر ہوں میرے پاس

أَمَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ

اے رب ہمارے ایمان لائے ہم - پس بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر اور تو بہتر

الرَّاحِمِينَ ۝ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ

رحم کرنے والا ہے اے رب میرے بخش اور رحم کر اور تو

أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝ رَبَّنَا اصْرِفْ

بہتر رحم کرنے والا ہے - اے رب ہمارے ہمارے رکھ

عَنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ

ہم سے عذاب دوزخ کا بیشک دوزخ کا عذاب (بڑی بھاری)

غَرَامًا ۝ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝

مصیبت، تحقیق وہ بُری ہے جبکہ قرار کی اور رہنے کی

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا

اے رب ہمارے بخش ہم کو ہماری بیبیوں اور ہماری اولاد

قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝

(کیطرف) سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ ۝

اے رب میرے بخش مجھ کو حکم اور ملائے مجھ کو ساتھ نیک بندوں کے

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝

اور کروا سطرے میرے ذکر خیر آنے والی تسوں میں

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝

اور کر مجھ کو جنت نعیم کے وارثوں سے

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ

اور نہ رسوا کر مجھ کو اس دن کہ (میرے قبروں سے اٹھائے جائیں گے) جس دن نہ نفع

مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ

دے گا مال اور نہ بیٹے مگر جو کوئی لائے اللہ کے پاس دل

سَلِيمٌ ۝ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

سلامت اے رب میرے توفیق دے مجھ کو کہ شکر کروں تیری نعمت کا

الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ

وہ جو انعام کی تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر اور یہ کہ

أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ

عمل کروں میں نیک کہ پسند کرے تو اسکو اور داخل کر مجھ کو اپنی رحمت

فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ

سے اپنے نیک بندوں میں اے رب میرے بیشک میں نے ظلم

نَفْسِي فَاعْفُرْ لِي - رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ

کیا اپنی جان پر پس بجھ مجھ کو اے رب میرے تحقیق اس چیز کے لئے

مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۝ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ

جو تو بھیج دے مجھے خیر سے محتاج ہوں اے رب میرے مددے مجھے مفسدوں

الْمُفْسِدِينَ ۝ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

کی قوم پر اے رب میرے بخش مجھ کو اولاد نیکوں سے

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ

اے رب میرے سما لیا تو نے ہر چیز کو رحمت میں اور علم میں پس بخش

لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ

ان لوگوں کو کہ توبہ کی اور پیروی کی تیری راہ کی اور بچا ان کو

عَذَابِ الْجَحِيمِ ۝ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ

عذاب دوزخ سے اے رب ہماری اور داخل کر ان کو جنات

عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ

عدن میں کہ وعدہ دیا ہے تو نے ان کو اور جو لائق بہشت کے ہیں -

آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ

ان کے باپوں سے اور ان کی بیبیوں سے اور ان کی اولاد سے بیشک

أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ

تو غالب حکمت والا ہے اور بچان کو برائیوں سے اور

وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ

جسکو تو بچائے گا برائیوں سے اس دن پس تحقیق مہربانی کی تو نے اس سے

وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ رَبِّ أَوْزِعْنِي

اور یہ بات وہی ہے مراد پاؤ بڑا - اے رب میرے توفیق دے مجھے

أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ

کہ شکر کروں تیری نعمت کا جو انعام کی تو نے مجھ پر اور میرے

عَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ

والدین پر اور یہ کہ عمل کروں نیک کہ پسند کرے تو اسکو اور

وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ

نیک بخت بنا میرے لئے میری اولاد کو تحقیق توبہ کی میں نے طرف تیری

وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا

اور تحقیق میں مسلمانوں سے ہوں اے رب ہمارے بخش ہم کو

وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں -

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا

اور نہ کر ہمارے دلوں میں کینہ واسطے ان لوگوں کے کہ ایمان لائے

رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ رَبَّنَا عَلَيْكَ

اے رب ہمارے تحقیق تو شفقت کرنا والا مہربان ہے۔ اے رب ہمارے تجھ پر

تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝

بھروسہ کیا ہم نے اور تیری طرف رجوع کیا ہم نے اور تیری طرف لوٹ کر جانا

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ

اے رب ہمارے نہ بنا ہم کو فتنہ واسطے ان لوگوں کے کافر ہوئے اور

اغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

بخش ہم کو اے رب ہمارے تحقیق تو غالب حکمت والا ہے۔

رَبَّنَا اتِّمِرْنَا نُورًا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ

اے رب ہمارے پورا کر واسطے ہمارے نور ہمارا اور بخش ہم کو

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ

تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رب میرے بخش مجھ کو اور

لِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا

میرے والدین کو اور جو شخص ایمان والا میرے گھر میں داخل ہوا

وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِسْمِ اللَّهِ

اس کو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے۔ شروع ساتھ نام اللہ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝

بخشش کرنے والے مہربان کے کہہ وہ اللہ ایک ہے۔

اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ

اللہ بے احتیاج ہے نہیں جناس نے اور نہ جنا گیا اور نہیں ہے

يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

واسطے اس کے ہمسر شروع ساتھ نام اللہ بخشش کرنے

الرَّحِيمِ ۝ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ

وائے مہربان کے کہہ پناہ مانگتا ہوں میں ساتھ پروردگار صبح کے تمام

شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا

وَقَبٍ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝

اندھیرا اچھا جائے اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدًا ۝ بِسْمِ

اور حسد کرنے والے کے شر سے جب حسد کرے شروع ساتھ

اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ

نام اللہ بخشش کرنے والے مہربان کے کہ پناہ مانگتا ہوں میں

النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝

ساتھ پروردگار لوگوں کے (ساتھ) بادشاہ لوگوں کے (ساتھ) معبود لوگوں کے

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي

نظر آنے والے وسوسہ ڈالنے والے (شیطان کے) شر سے

يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ

جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں

الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

جنوں میں سے اور انسانوں میں سے

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں

الرَّحْمٰنُ	الرَّحِيْمُ	الْمَلِكُ	الْقُدُّوسُ	السَّلَامُ
بڑا مہربان	نہایت رحم والا	بادشاہ	پاک	سلامت

۱۔ قرآنی دعائیں ختم ہوئیں۔ اب آگے سب حدیثی دعائیں ہیں۔
 ۲۔ قرآن مجید میں اللہ فرمایا ہے **وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا**۔
 اور واسطے اللہ کے نام ہیں اچھے (تناوے نام) پس پکارو اللہ کو ساتھ ان
 ناموں کے (پ ۱۲ ع ۱۲) اور حدیث شریف میں جناب رحمت للعالمین ص نے
 فرمایا ہے: **إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ سَعَةً وَتِسْعِينَ إِسْمًا مِّنْ أَحْضَاهَا دَخَلَ
 الْجَنَّةَ (ترمذی)** ”تحقیق اللہ تعالیٰ کے تناوے نام ہیں جو کوئی یاد کرے گا ان کو
 داخل ہوگا بہشت میں“ ان ناموں کے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پڑھا
 کرے اور ان کے ترجمے اور مطلب پر غور کرتے ہوئے خود کو ان صفات سے
 متصف کرے۔ مثلاً اللہ کی صفت ہے الرَّحْمٰن۔ نہایت مہربان۔ تو یہ
 اسم اپنے پڑھنے والے سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ مخلوق خدا کے لئے سراپاٹے
 مہربانی و شفقت ہو۔

الْمُؤْمِنُ	الْمُهَيَّمُ	الْعَزِيزُ	الْجَبَّارُ	الْمُتَكَبِّرُ
امن دینے والا	محافظ	غالب	زبردست	بڑائی والا
الْمُخَلِّقُ	الْبَارِئُ	الْمُصَوِّرُ	الْغَفَّارُ	الْقَهَّارُ
پیدا کرنے والا	بنانے والا	صورت بنانے والا	بہت بخشنے والا	زور والا
الْوَهَّابُ	الرِّزَّاقُ	الْفَتَّاحُ	الْعَلِيمُ	الْقَابِضُ
بڑا دینے والا	روزی دینے والا	کھولنے والا	جاننے والا	بند کرنے والا
الْبَاسِطُ	الْمُخَافِضُ	الرَّافِعُ	الْمُعِزُّ	الْمُذِلُّ
فراخ کرنے والا	پست کرنے والا	اُچھا کرنے والا	عزت دینے والا	ذلت دینے والا
السَّمِيعُ	الْبَصِيرُ	الْحَكَمُ	الْعَدَلُ	اللَّطِيفُ
سننے والا	دیکھنے والا	فیصلہ کرنے والا	انصاف کرنے والا	باریک بین
الْخَبِيرُ	الْحَلِيمُ	الْعَظِيمُ	الْغَفُورُ	الشَّكُورُ
خبردار	بُردبار	بزرگ	پردہ پوش	قدر دان
الْعَلِيُّ	الْكَبِيرُ	الْحَفِيفُ	الْمَقِيتُ	الْحَسِيدُ
بلند	بڑا	نکھبان	غذا دینے والا	کافی

الْجَلِيلُ	الْكَرِيمُ	الرَّقِيبُ	الْمُجِيبُ	الْوَاسِعُ
بزرگ قدر	کرم کرنیوالا	رکھوالا	قبول کرنیوالا	کشاہدہ رحمت
الْحَكِيمُ	الْوُدُودُ	الْمُجِيدُ	الْبَاعِثُ	الشَّهِيدُ
حکمت والا	دوست دار	بزرگ	انھانے والا	گواہ
الْحَقُّ	الْوَكِيلُ	الْقَوِيُّ	الْمُتَيْنُ	الْوَلِيُّ
سچا	ضامن	زبردست	مضبوط	دوست
الْحَمِيدُ	الْمُحْصِي	الْمُبْدِي	الْمُعِيدُ	الْمُحْيِي
ستودہ	گینے والا	پہلی بار پیدا کرنیوالا	ٹوٹانے والا	زندہ کرنیوالا
الْمُبِيتُ	الْحَيُّ	الْقَيُّومُ	الْوَاحِدُ	الْمَاجِدُ
مارنے والا	سدا زندہ	تھانے والا	موجود کرنیوالا	بزرگی والا
الْوَاحِدُ	الْأَحَدُ	الضَّمَدُ	الْقَادِرُ	الْمُقْتَدِرُ
اکھلا	تنہا	بے نیاز	قدرت والا	قدرت دینے والا
الْمُقَدِّمُ	الْمُؤَخَّرُ	الْأَوَّلُ	الْآخِرُ	الظَّاهِرُ
سب سے پہلے	سب سے پیچھے	اول	آخر	کھلا ہوا

البَّاطِنُ	الْوَالِي	الْمُتَعَالَى	الْبِرُّ	التَّوَابُ
پوشیدہ	مالک	برتر	نیکی کرنیوالا	توبہ قبول کرنیوالا
الْمُنْتَقِمُ	الْحَفْوُ	الرَّوْفُ	مَالِكُ	الْمَلِكُ
برہ لینے والا	معاف کرنے والا	شفقتت کرنیوالا	مالک	ملک کا
ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	الْمُقْسِطُ	الْجَامِعُ		
بزرگی اور مناجبت	بخشش کا عدل کرنیوالا	جمع کرنیوالا		
الْغَنِيُّ	الْمُغْنِي	النَّانِعُ	الضَّارُّ	النَّافِعُ
بے پروا	آسودہ کرنیوالا	روکنے والا	مرز پہنچا کر نیوالا	نفع دینے والا
النُّورُ	الْمَادِي	الْبَدِيعُ	الْبَاقِي	الْوَارِثُ
روشنی والا	راہ دکھانے والا	نیا پیدا کرنیوالا	باقی رہنے والا	سب کا وارث
	الرَّشِيدُ	الصَّبُورُ	(مَسِيرٌ)	
	نیک راہ بتانے والا	صبر والا		

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ

اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس وسیلہ سے کہ تو اللہ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي

(معبود برحق) ہے نہیں کوئی معبود سوائے تیرے تو اکیلا ہے بے نیاز وہ

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا

جو نہ جنما اس نے اور نہ جنما گیا اور نہیں سے اس کا کوئی

أَحَدٌ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ

ہمسرا اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس وسیلہ سے کہ

الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمُنَّانُ

تیرے لئے ہے سب تعریف نہیں کوئی معبود سوائے تیرے مہربان ہے

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ

اجبان کر نیوالا بنا نیوالا آسمانوں اور زمین کا اے صاحب بزرگی

وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ أَسْأَلُكَ ۝

اور بخشش کے سدا زندہ اے سب کے بھاننے والے مانگتا ہوں تجھ سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا

اے اللہ تحقیق میں گواہ کرتا ہوں تجھ کو کہ اللہ تو ہی ہے۔ نہیں کوئی

إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَ

معبود سوائے تیرے ایک ہے بے نیاز + نہیں بنا اور

لَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

نہ بنا گیا اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر ۝

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي

اے اللہ تو ہی ہے پروردگار میرا نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے تیرے

وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ

پیدا کیا تو نے مجھ کو اور میں تیرا بند ہوں اور میں تیرے عہد (ميثاق) پر قائم

مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ

ہوں اور تیرے وعدے پر (یقین کرنا والا) بقدر اپنی طاقت کچھ پناہ مانگتا ہوں تاکہ

أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي

تیرے اس چیز کی برائی سے کہ کی میں نے، اقرار کرتا ہوں میں اسطے تیرے نعمت تیری کا جو مجھ پر ہے

فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

اور اقرار کرتا ہوں اپنے گناہ کا پھر تو مجھ کو بخش دے کہ گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا -

إِلَّا أَنْتَ ۝ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سوا تیرے پاک ہے اللہ (شرک اور ہر عیب سے)

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ۝ (مشکوٰۃ)

اور سب تعریفیں اللہ کے لئے ہے اور نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۝ (دعوت لکھنؤ)

اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ نہیں پھرنا گناہوں سے اور نہیں طاقت عبادت پر مگر ساتھ

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي

اللہ کی مدد کے لئے اللہ کر میرے دل میں نور اور میری

بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَ

آنکھ میں نور اور میرے کان میں نور اور میرے

عَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَائِي نُورًا

دائیں نور اور میرے بائیں نور

وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَآمَامِي

اور میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور اور میرے آگے

نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا

نور اور میرے پیچھے نور اور کر پیدا میرے واسطے نور

وَفِي لِسَانِي نُورًا وَعَصَبِي نُورًا وَلِحَبِي

اور میری زبان میں نور اور میرے پھٹوں میں نور اور میرے گوشت

نُورًا وَدَمِي نُورًا وَشَعْرِي نُورًا وَبَشْرِي

میں نور اور میرے خون میں نور اور میرے بالوں میں نور اور میرے بدن

نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا وَاعْظِمْ لِي

میں نور اور میری جان میں نور اور بڑھا کر میرے لئے

نُورًا اللَّهُمَّ اعْظِمْ لِي نُورًا ○ بِسْمِ اللَّهِ

نور۔ اے اللہ بخش مجھ کو نور ساتھ نام اللہ کے

تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ

بجروسہ کیا میں نے اللہ پر۔ اے اللہ ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں

مِنْ أَنْ نَزَلَ أَوْ نُضِلَّ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نُظْلَمَ

پھسنے سے یا گمراہ ہونے سے یا ظالم ہونے سے یا مظلوم ہونے سے

اَوْ نَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا ۝ (ابوداؤد) لَا اِلَهَ

یا جہالت کرنے سے (دوسروں پر) یا جہالت کئے جانے سے اپنے پر۔

اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ

نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اکیلا ہے وہ نہیں شریک اسکا۔ اسی کے

الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يَوْمَئِذٍ

لئے ہے ملک اور اسی کیلئے ہے سب تعریف اسی کے ہاتھ میں ہے بھلائی زندہ

وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ (ترمذی)

کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ ۝ (ابوداؤد) اَللّٰهُمَّ

اے اللہ پناہ دے مجھ کو دوزخ سے۔ اے اللہ

اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَعَمَلًا مَّتَقَبَلًا

تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے علم نفع دینے والا اور عمل مقبول

وَرِزْقًا طَيِّبًا ۝ (ابن ماجہ) بِمِحْرَةِ اللّٰهِ الَّذِيْ

اور روزی پاکیزہ ساتھ نام اللہ کے جو

لَا يَضُرُّمَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ

نہیں ضرر کرتی ساتھ نام اس کے کوئی چیز زمین میں

وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اور نہ آسمان میں اور وہ سنے والا جانتے والا ہے

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي

اے اللہ عافیت دے مجھے میرے بدن میں۔ اے اللہ عافیت دے مجھے

سَمِعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لِأَنَّ

میرے سننے میں، اے اللہ عافیت دے مجھے میرے دیکھنے میں۔ نہیں کوئی

إِلَّا أَنْتَ ۝ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَ

معبود برحق سوا تیرے راضی ہوا میں اللہ کے رب ہونے سے اور

بِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ۝

اسلام کے دین ہونے سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةٍ

صبح کی ہم نے دین اسلام پر اور کلمہ توحید پر

الإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا وَعَلَى مِلَّةِ

اور اپنے نبی (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے دین پر اور اپنے

أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ

باب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت (شمارہ توحید) پر جو یک شخص

الْمُشْرِكِينَ ۝ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ

(موجود تھے اور بناتے تھے مشرکوں سے - صبح کی ہم نے اور صبح کی

الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْكِبْرِيَاءُ

ملک نے واسطے اللہ کے اور سب تعریف واسطے اللہ کے ہی اور بڑائی

وَالْعُظْمَاءُ لِلَّهِ وَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَاللَّيْلُ

اور بزرگی اللہ کے لئے ہے اور سب خلقت اور اس پر حکم چلانا اور رات

وَالنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيهِمَا لِلَّهِ - اللَّهُمَّ

اور دن اور جو کچھ بتا ہے ان دونوں میں سب کچھ اللہ ہی کے لئے ہے۔ اے

اجْعَلْ أَوَّلَ هَذَا النَّهَارِ صَلَاحًا وَ

اللہ کر اول اس دن کا دہانے لئے، سب نیکی کا۔ اور

اَوْسَطُهُ نَجَاحًا وَّ اٰخِرَةً فَلَاحًا يَا اَرْحَمَ

درمیان اس کا سبب حاجت روائی کا اور آخر اس کا سبب نجات کالے سب

الرَّاحِمِينَ (اذا ذکر نووی) اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ

مہربانوں سے بڑھ کر مہربانی کرنے والے - صبح کی ہم نے اور صبح کی

الْمَلِكُ رَبُّ الْعَالَمِينَ - اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ

ملک نے واسطے اللہ رب العالمین کے - اے اللہ میں

اَسْئَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْیَوْمِ فَتْحًا وَنَصْرًا

تجھ سے مانگتا ہوں بھلائی اس دن کی، فتح اس کی اور مدد اس کی

وَنُوْرًا وَبَرَکَّتَهُ وَهُدَاةً وَّاَعُوْذُ بِكَ

اور روشنی اس کی اور برکت اس کی اور ہدایت اس کی (جو تو نے اسمیں رکھی ہے،

من شَرِّ مَا فِیْهِ وَّ شَرِّ مَا بَعْدَهُ ○

اور دنیا مانگتا ہوں اتنے قیسے (ہر، برائی سے جو دن میں، اور دہر، برائی سے جو اسکے بعد)

اَمْسِیْنَا وَاَمْسِ الْمَلِكُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ

شام کی ہم نے اور شام کی ملک نے واسطے اللہ رب العالمین کے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلِ

اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں بھلائی اس رات کی

فَتْحَهَا وَنَصْرَهَا وَنُورَهَا وَبَرَكَتَهَا وَ

فتح اس کی اور مدد اس کی اور روشنی اس کی اور برکت اس کی اور

هُدَاهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهَا وَ

ہدایت اس کی (جو تو نے اس میں رکھی ہے) اور پناہ مانگتا ہوں ساتھ تیرے (ہر)

شَرِّ مَا حُدَّهَا ۝ ^{البدایہ} أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ

برائی سے جو رات میں ^{ادھر}، برائی سے جو اسکے بعد ہے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے

التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ اللَّهُمَّ

پورے کلموں کے ساتھ تمام مخلوق کی برائی سے اے اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے سلامتی دنیا اور آخرت میں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے معافی اور سلامتی

فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَاهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ

اپنے دین میں اور اپنی دُنیا میں اور اپنے گھر میں اور اپنے مال میں۔

اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَأَمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ

اے اللہ! ڈھانک عیب میرے اور امن میں رکھ (مجھ کو) میرے خوف کی چیزوں سے۔

أَحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْي وَمِنْ خَلْفِي

حفاظت کر میری میرے اگے سے اور میرے پیچھے سے۔

وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي

اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے اور

وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

پناہ پکڑتا ہوں تیری عظمت کی اس سے کہ ہلاک کیا جاؤں میں چاکٹ اپنے نیچے سے زمین میں

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ

حسنِ حالنے سے، اے اللہ تیری مدد سے صبح کی ہم نے اور تیری مدد سے شام کی ہم نے

نَحْيُ وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

اور تیری قدرت سے جیتے ہیں ہم اور تیری قدرت سگریں گے ہم اور تیری طرف سے پھر جانا

اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ

اے اللہ تیری مدد سے شام کی ہم نے اور تیری مدد سے صبح کی ہم نے اور تیری

نَجْحِي وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ طرہ سے

قدر سے جینے ہیں ہم اور تیری مدد سے مریں گے ہم اور طرف تیری ہے جی اٹھنا

اللَّهُمَّ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ

اے اللہ جاننے والے چھپے اور کھلے کے اور پیدا کرنے والے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَ

آسمانوں اور زمین کے، پالنے والے ہر چیز کے اور

مَلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ -

مالک اس کے - گواہی دیتا ہوں میں اسکی کہ نہیں کوئی معبود برحق سوا تیرے

أَعُوذُ بِكَ مِنْ بَشَرٍ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ

پناہ مانگتا ہوں میں ساتھ تیرے اپنے نفس کی برائی سے اور شیطان کے شر سے

الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهِ ۝ اللَّهُمَّ مَا

اور اس کے شرک (میں ڈالنے سے) اے اللہ جو

أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ

صبح کو ملے مجھے کوئی نعمت یا کسی کو ملے تیری مخلوق سے۔ پس

فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَالْحَمْدُ

سب تجھ اکیلے کی طرف سے ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ پس تیرے ہی

الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ - اللَّهُمَّ مَا أَمْسَى بِي

لٹے ہے سب تعریف اور تیرے ہی لٹے سے شکر، اے اللہ جو شام کو ملے

مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ

مجھے کوئی نعمت یا کسی کو ملے تیری مخلوق میں سے۔ پس سب تجھ

وَ حُدُوكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَالْحَمْدُ وَ

اکیلے کی طرف سے ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ پس تیرے ہی لٹے ہے سب

لَكَ الشُّكْرُ (البوداؤر) اللَّهُمَّ أَصْبَحْنَا

تعریف اور تیرے ہی لٹے شکر اے اللہ صبح کی ہم نے در حالیکہ

و نَشْهَدُكَ وَ نَشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَ

گواہ کرتے ہیں ہم تجھ کو اور گواہ کرتے ہیں تیرے عرش کے اٹھائیوں کو اور

مَلَائِكَتِكَ وَجَمِيعِ خَلْقِكَ أَنْتَ اللَّهُ

تیرے فرشتوں کو اور تیری سب مخلوقات کو کہ تحقیق تو ہے اللہ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

(معبود برحق) نہیں کوئی معبود سوا تیرے اکیلا ہے تو نہیں کوئی شریک واسطے

وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ۝

تیرے اور بیشک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بندہ تیرا ہے اور رسول تیرا

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ۝

اے اللہ بچا مجھ کو اپنے عذاب سے اس دن کہ اٹھائے گا تو اپنے بندوں کو

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ

اے اللہ تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تیری بزرگ ذات کے ساتھ

وَكَلِمَاتِكَ الثَّمَامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ

اور تیرے پورے کلموں کے ساتھ برائی اس چیز کی سے۔ کہ تو

لِخِذِّ بِنَاصِيَّتِهِ - اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ

پھرنے والا ہے بال اسکی پیشانی کے۔ اے اللہ تو دور کرتا ہے

ختم

المَغْرَمَ وَالْمَأْتَمَ - اللَّهُمَّ لَا يَهْزَمُ

قرض کو اور گناہ کو اے اللہ نہیں شکست

جُدُّكَ وَلَا يُخْلَفُ وَعُدُّكَ وَلَا

دیا جاتا شکر تیرا اور نہیں خلاف کیا جاتا وعدہ تیرا ، اور نہیں

يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ

نفع دیتی دولت مند کو تیرے عذاب سے دولت مند ہی سہاگ ہے تو

وَبِحَمْدِكَ (ابو داؤد) أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي

اور پاک یاد کرتا ہوں میں ساتھ تعریف تیری کے بخشش چاہتا ہوں میں اللہ سے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَآتُوبُ

(ایسا اللہ) کہ نہیں کوئی عبود سوائے اسکے سدا زندہ سب کا مٹانے والا اور توبہ کرتا ہوں

إِلَيْهِ (میرید) اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ

میں اس کی طرف - اے اللہ پروردگار آسمانوں کے اور پروردگار

الْأَرْضِ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ

زمین کے اور پروردگار ہر چیز کے پھاڑنے والے دانے اور

وَالتَّوْبَىٰ مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَ

گھٹی کے اتارنے والے تورات اور انجیل اور

الْقُرْآنِ - اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ

قرآن کے - پناہ مانگتا ہوں میں ساتھ تیرے ہر بڑے کی برائی

أَنْتَ اخِذْ بِنَاصِيَتِهِ أَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ

سے کہ تو پکڑنیو الاٹھے بال اسکی پیشانی کے - تو ہی ہے پہلے پس نہیں پہلے تجھ

قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ

سے کوئی چیز اور تو ہی ہے آخر پس کچھ نہیں ہے تجھے تیرے کوئی چیز اور

شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَ

تو ہی ہے ظاہر پس نہیں ہے اوپر سے کوئی چیز اور تو ہے

لہ پیشانی کے بال پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ سب مخلوق اسکے آگے ہے بس اور مجبور ہے کوئی اسکے حضور دم نہیں مار سکتا

توہر برائی بھی اس کے ہاتھ میں مسخر و مقید ہے اسکے حکم کے بغیر کوئی چیز مضر نہیں پہنچا سکتی

۷ یعنی قدیم، بلا ابتدا سے یعنی باقی بغیر انتہا۔ لکھ ظاہر اپنے افعال و صفات کے

ساتھ سے یعنی تجھ سے بڑھ کر کوئی چیز ظاہر اور واضح نہیں۔

أَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ أَقْضَى

پوشیدہ (بر اعتبار ذات) پس نہیں ہے پوشیدہ تختہ سے کوئی چیز۔ ادا کر مجھ سے

عَنْ الدَّيْنِ وَأَغْنِي مِنَ الْفَقْرِ [ابوراؤن] اِنِّي

قرض سے اور بے نیاز کر مجھ کو محتاجی (دفع) سے تحقیق میں نے

وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَ

متوجہ کیا منہ اپنا اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور

الْأَرْضِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ط إِنِّ

زمین کو اور نہیں ہوں میں مشرکوں سے تحقیق

صَلَوْتِي وَنَسُكِي وَحَيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ

نماز میری اور قربانی میری اور جینا میرا اور مرنا میرا واسطے اللہ

رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ

کے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے اسکا کوئی شریک نہیں اور اسی (توحید) کا

لہ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا پوشیدہ ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔

سے مالی قرض بھی اور حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد کا قرض بھی۔

أَمْرٌ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ - اللَّهُمَّ

مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمان ہوں - اے اللہ

أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّي وَ

تو ہی بادشاہ ہے نہیں کوئی معبود سوا تیرے - رب میرا ہے

أَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ وَاعْتَرَفْتُ

اور میں ہوں غلام تیرا۔ ظلم کیا میں نے اور میں اعتراف کرتا ہوں

بِذُنُوبِي فَأَعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا

اپنے گناہ کا پس بخش دے مجھ کو گناہ میرے سب -

إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

بے شک کوئی گناہ نہیں بخشتا سوا تیرے اور

وَأَهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي

راستہ دکھا مجھ کو اچھے اخلاق کا نہیں راہ دکھاتا

لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَأَصْرِفْ عَنِّي

کوئی اچھے اخلاق کا سوا تیرے اور پھیر دے مجھ سے

سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا

بری عادتوں کو - ہمیں پھیرتا کوئی مجھ سے بُری عادتوں کو

إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَ

سوا تیرے، حاضر ہوں تیری خدمت میں اور امیدوار ہوں تیری بھلائیوں

الْخَيْرِ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ

کا اور سب بھلائیاں تیرے ہاتھوں میں ہیں اور برائیاں

لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ

تیری طرف منسوب نہیں ہیں۔ میں تیری مدد سے (جی رہا) ہوں اور تیری طرف

تَبَارَكَتْ وَتَعَالَيْتْ وَاسْتَغْفِرُكَ

آنے والا ہوں۔ بابرکت ہے تو اور بلند ہے تیری شان اور میں تجھ سے بخشش

وَآتُوبُ إِلَيْكَ ۝ (صحیح مسلم) اللَّهُمَّ

چاہتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں اے میرے اللہ

اعْفِرْ لِي ذَنْبِي وَاخْسَأْ شَيْطَانِي وَ

بخش مجھ کو گناہ میرے اور دور کر شیطان میرے کو اور

فَكَرِهَانِيُ وَأَجْعَلْنِي فِي التَّوْبَةِ

چھڑا گروی میری اور کر مجھ کو مجلس

الرُّعْلَى ۝ (أَبُو دَاوُدَ) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

بلند میں سب تعریف اللہ کے لئے سے جس نے

كَفَانِيُ وَأَوَانِيُ وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِيُ

کفایت کیا مجھ کو (خلقت سے بے پروا کر کے) اور جگہ دی مجھ کو (دکان

وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ وَالَّذِي

دیکر) اور کھلایا مجھ کو اور پلایا مجھ کو اور جس نے احسان کیا مجھ پر اور زیادہ دیا

أَعْطَانِيُ فَأَجْزَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ

اور جس نے (اور) دیا مجھ کو پس بہت دیا شکر اللہ کے لئے ہے

عَلَى كُلِّ حَالٍ - اللَّهُمَّ رَبِّ

ہر حال میں - اے اللہ پروردگار

اے چھڑا گروی میری یعنی رہائی دے نفس میرے کو بندوں کے حقوق سے -

اے بلند مجلس سے فرشتوں اور نبیوں کی مجلس مراد ہے -

كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَةٌ وَالْهَكْلُ

ہر چیز کے اور مالک اس کے اور معبود ہر چیز

شَيْءٍ اَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ (ابوداؤد)

کے پناہ مانگتا ہوں میں ساتھ تیرے دوزخ سے

اللَّهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ كَاثِفَ الْغَمِّ

اے اللہ دور کرنے والے فکر کے اور کھولنے والے غم کے

مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ رَحْمَانَ

قبول کرنے والے دُعا عاجزوں کی بخشش کرنے والے

الدُّنْيَا وَرَحِيمَهَا أَنْتَ تَرْحَمُنِي

دنیا والوں کے اور مہربان دنیا کے تو ہی رحم کرنے والا ہے مجھ پر

فَارْحَمْنِي رَحْمَةً تَغْنِينِي بِهَا

پس رحم کر مجھ پر، وہ رحم کہ بے نیاز کروے تو مجھ کو

عَنْ رَحْمَةٍ مَنْ سَوَّأَكَ (رحمن حسین)

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ

صبح کی ہم نے اور صبح کی ملک نے واسطے اللہ کے اور سب تعریف

لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ

اللہ ہی کے لئے ہے۔ نہیں کوئی معبود مگر اللہ تنہا نہیں کوئی شریک

لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى

اس کا۔ اسی کے لئے سے بادشاہت اور اسی کے لئے ہے تعریف اور

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ رَبِّ أَسْأَلُكَ

وہ ہر چیز پر قادر ہے اے رب میرے مانگتا ہوں میں تجھ

خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ

سے بھلائی اس چیز کی کہ اس دن میں ہے اور بھلائی اس چیز کی کہ بعد اسکے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا

ہے۔ اور پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے اس چیز کی برائی سے کہ اس

الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ۝ (ترمذی)

دن میں ہے اور اس چیز کی برائی سے کہ بعد اس کے ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اولاد محمد صلی اللہ

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

علیہ وسلم پر جیسے رحمت بھیجی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

اور اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، تحقیق تو تعریف کیا گیا

مَجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ

بزرگ ہے اے اللہ برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

اور اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے برکت بھیجی تو نے

عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝

تحقیق تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔



یک شنبہ

کبھی نالہ ہائے شب ہوں کبھی منغمہ سحر ہو
کہ صبا نے ساز چھپڑا بہ سکوت خوش نگاراں

منزل دُوسری — یک شنبہ



شروع ساتھ نام اللہ بخشش کرنے والے ہر بیان کے

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَتَرَى مَكَانِي وَتَسْمَعُ

اے اللہ بیشک تو جانتا ہے (میرا حال)، اور دیکھتا ہے میری جگہ کو اور سُناتا

کلامِ میری وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَّتِي وَ

ہے میرے کلام کو اور جانتا ہے تو میرے چھپے کو اور ظاہر کو، اور

لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِي وَ

پوشیدہ نہیں ہے تجھ پر میرا کچھ حال - اور

أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ

میں ہوں خستہ حال - فقیر - فریاد کرنے والا - پناہ مانگنے والا

الْوَجِلُ الْمُسْتَفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ

خوف کھانے والا، ڈرنے والا - اقرار کرنے والا - اعتراف کرنے والا -

بِذَنْبِي أَسْأَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمُسْكِينِ وَ

اپنے گناہ کا، ماتحت ہوں میں تجھ سے مانگنا مسکین کا اور

أَبْتِهْلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمَذْنِبِ الدَّلِيلِ

گر گڑا آتا ہوں طرف تیری گڑا کرنا گناہ گار ذمیل کا

وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ مَنْ

اور مانگتا ہوں تجھ سے مانگنا ڈرنے والے نصیبت زدہ کا جو

خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ

دب گئی تیرے لئے گردن اس کی اور بہ نکلیں تیرے لئے

عَيْنَاهُ وَنَجَلَ لَكَ جَسَدُهُ وَرَغِمَ

آنکھیں اس کی اور دبلا ہوا تیرے لئے جسم اسکا اور خاک آلودہ ہوئی

لَكَ أَنْفُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ

تیرے لئے ناک اس کی۔ اے اللہ! میرے پروردگار! مجھے اپنی دعا

رَبِّ شَقِيًّا وَكُنْ بِي رَعُوفًا رَحِيمًا

سے محروم نہ کر اور ہو تو مجھ پر نرمی کرنے والا مہربان -

يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ يَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ

اے وہ کہ سب سوال کئے گیوں سے بہتر اور سب دینے والوں سے اچھا ہے

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

اے سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنیوالے اور سب تعریف اللہ کو ہے جو

الْعَالَمِينَ - آمِينَ ﴿طبرانی﴾ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ

رب سے سب جہانوں کا (الہی، قبول کر۔ اے اللہ بیشک تو جانتا ہے

سِرِّي وَعَلَانِيَتِي فَأَقْبِلْ مَعْدِرَتِي

میرا چھپا اور کھلا - پس قبول کر میرا عذر

وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سُؤْلِي وَتَعْلَمُ

اور جانتا ہے تو حاجت میری پس عطا کر مجھ کو میری مانگی چیز اور جانتا ہے

مَا فِي نَفْسِي فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي اللَّهُمَّ إِنِّي

تو جو میرے جی میں ہے پس بخش مجھ کو گناہ میرے۔ اے اللہ! تحقیق میں

أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يَأْشُرُ قَلْبِي وَيَقِينًا

مانگتا ہوں تجھ سے ایمان جو رنج جائے میرے دل میں اور یقین

صَادِقًا حَتَّىٰ أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي

سچا۔ یہاں تک کہ جان لوں میں کہ یقیناً مجھ کو کچھ نہ پہنچے گا

إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي

مگر جو کچھ دیا تو نے میرے لئے اور مانگتا ہوں / ضامنہی اس پر جو قسمت کیا تو نے

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ○ (دعوات بہتھی) اللَّهُمَّ

میرے لئے اے سب رحم کرنے والوں سے بڑے رحم کرنے والے اے اللہ

قِنِّعَنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ

قناعت دے مجھ کو ساتھ اس چیز کے کہ روزی دی تو نے مجھے اور برکت دے میرے

وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ ○ (دعوات بہتھی)

لئے اس میں اور غلیف (گھبان) ہو میری ہر غائب چیز پر ساتھ بھلائی کے

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا لَدَيْ تَقْوُلُ

اے اللہ سب تعریف تیرے ہی لئے ہے جس طرح کہ تو سر مانتا ہے۔

وَخَيْرٌ أَمَّا نَقُولُ - اللَّهُمَّ لَكَ صَلَاتِي

اور بہتر اس سے کہ ہم کہتے ہیں اے اللہ تیرے ہی لئے میری نماز او

وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَرَالَيْكَ مَا بِي

میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اور طرف تیسری ہے جانا میرا

وَلَكَ رَبِّي تُرَاتِي - اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

اور واسطے تیرے ہی ہے اے رب مجھے میراث میری اے اللہ تحقیق میں پناہ

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَسُوَاسِ لَصْدُرٍ

مانگتا ہوں ساتھ تیرے عذاب قبر سے اور سینہ کے وسوسوں سے

وَسْتَاتِ الْأَمْرِ - اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ مِنْ

اور کام کی پریشانی سے - اے اللہ تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے

خَيْرِ مَا تَجِيُّ بِهِ الرِّيحُ وَأَعُوذُ بِكَ

بھلائی اس چیز کی جو لاتی ہے اسے ہوا اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے

مِنْ شَرِّ مَا تَجِيُّ بِهِ الرِّيحُ ○

اس چیز کی برائی سے جو لاتی ہے اسے ہوا -

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے اکیلا ہے وہ اسکا کوئی شریک نہیں

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ

اسی کے لئے بادشاہی اور اسی کے لئے ہے سب تعریف وہ زندہ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ

کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! کہ

فِي قَلْبِي نُورًا وَسَمِعِي نُورًا وَبَصِرِي

میرے دل میں روشنی اور میرے کان میں روشنی اور میری آنکھ

نُورًا اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَكَيِّرْ

میں روشنی۔ اے اللہ! کھول دے میرے لئے سینہ میرا اور آسان

لِي أَمْرِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وِسَاوِسِ

کرمیرے لئے کام میرا، اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے سینہ کے دوسروں

الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأُمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ

سے، اور کام کی پریشانی سے اور قبر کے فتنہ سے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا

اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس چیز کی برائی سے

يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَشَرًّا مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ

جو داخل ہوتی ہے رات میں اور اس چیز کی برائی سے جو داخل ہوتی ہے دن

وَشَرًّا مَا تَهْبُ بِهٖ الرِّيحُ وَشَرِّ

میں اور اس چیز کی برائی سے جو چلتی ہے ساتھ اُسکے ہوا۔ اور زمانے کی

بَوَائِقِ الدَّهْرِ (ابن ابی شیبہ) اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا

آفتوں کی برائی سے اے اللہ راہ دکھا ہم کو

بِالْهُدٰى وَزَيْتًا بِالتَّقْوٰى وَاعْفِرْ لَنَا

ساتھ ہدایت کے اور زینت دے ہم کو ساتھ پر سیزگاری کے اور بخش ہم کو

فِي الْاٰخِرَةِ وَالْاٰوَلٰى. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ

آخرت میں اور دنیا میں - اے اللہ تحقیق میں مانگتا ہوں

رِزْقًا حَلٰلًا طَيِّبًا مُّبٰرَكًا. اَللّٰهُمَّ

تجھ سے رزق حلال - پاک - برکت والا - اے اللہ!

اِنَّكَ اَمَرْتَنِىْ بِالدُّعَاِ وَلَكَ الْاِجَابَةُ

اے اللہ تو نے حکم دیا مجھ کو ساتھ دعا کے اور تیرا کام ہے

وَأَنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْبُعَادَ وَلَا تَنْكُثُ

اور تحقیق تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور نہیں توڑتا

عَهْدَكَ اللَّهُمَّ مَا أَحْبَبْتَ مِنْ خَيْرٍ

عہد اپنا اے اللہ جو چیز پسند ہو تجھ کو بھلائی سے

فَحَبِّبْهُ إِلَيْنَا وَيَسِّرْهُ إِلَيْنَا وَمَا

پس محبت دے اس کی ہم کو اور آسان کر وہ ہم پر اور جو چیز

كَرِهْتَ مِنْ شَرِّ فَكْرِهْهُ إِلَيْنَا وَ

نا پسند ہو تجھ کو برائی سے پس بری دکھا وہ ہم کو اور

جَنِّبْنَاهُ وَلَا تَنْزِعْ مِنَّا الْإِسْلَامَ بَعْدَ

بچا ہم کو اس سے اور نہ چھین لے ہم سے اسلام

إِذْ هَدَيْتَنَا ○ (طبرانی) اللَّهُمَّ رَبِّ

اے اللہ! پروردگار

السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَمَتْ وَرَبِّ

ساتوں آسمانوں کے اور اس چیز کے کہ سایہ کئے ہوئے ہیں آسمان اس پر

الْأَرْضَيْنِ وَمَا أَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ

اور اے پروردگار زمینوں کے اور اس چیز کے کہ اٹھا رہی ہیں زمینیں اور اے پروردگار شیطانوں

وَمَا أَضَلَّتْ كُنِّي لِي جَارًا مِّنْ شَرِّ

کے اور ان کے کہ گمراہ کیسا ہے شیطانوں نے ان کو، جو میرے لئے پناہ دینے والا اپنی

خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ

ساری مخلوقات کی برائی سے اس سے کہ زیادتی کرے مجھ پر کوئی

أَحَدٌ مِّنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ عَزَّجَارِكَ

ان میں سے یا ظلم کرے غالب ہے پناہ چاہنے والا تیرا

وَجَلَّ شَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ لَا

اور بزرگ ہے تعریف تیری اور نہیں کوئی معبود سوا تیرے۔ نہیں

إِلَهَ أَنْتَ ۝ (تمنہ سے) اللَّهُمَّ أَسَلْتُ

کوئی معبود مگر تو اے اللہ مطیع کیا میں نے

نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ

جان اپنی کو تیری طرف اور متوجہ کیا میں نے منہ اپنا طرف تیری

وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَانُّ ظَهَرِي

اور سونپا میں نے کام اپنا طرف تیری اور لگاٹی میں نے پیچھا اپنی

إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ

طرف تیری، تیری رحمت کی خواہش اور ترسے عذاب سے ڈرتے ہوئے نہیں

وَلَا مَنجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ - أَمَنْتُ

ہے کہیں پناہ اور نہ جبکہ نجات کی سوا تیری بارگاہ کے - ایمان لایا میں

بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ

تیری کتاب پر جو اتاری تو نے اور تیرے نبی پر جو

الَّذِي أَرْسَلْتَ ۝ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي

بخاری

بھیجا تو نے اے اللہ بخش دے مجھ کو خطا میری

وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ

اور نادانی میری اور زیادتی میری میرے کام میں اور (وہ گناہ) جو تو

أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي - اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَذَا

مجھ سے زیادہ جانتا ہے اے اللہ بخش دے مجھ کو ہنسی سے کہے ہوئے گناہ

وَجِدَّتِي وَخَطِيئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ

میرے اور قصداً کئے ہوئے اور بھول کر کئے ہوئے اور جان کر کئے ہوئے اور یہ

عِنْدِي - اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَ

سب عیب میرے اندر ہیں۔ اے اللہ بخش دے مجھ کو جو گناہ پہلے کئے ہیں نے اور

مَا أَخْرَتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ

جو پتھے کئے ہیں میں نے اور جو پوشیدہ کئے ہیں نے اور جو علانیہ کئے ہیں نے

وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمَقْدِمُ

اور وہ گناہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور

وَأَنْتَ الْمَوْخِرُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

تو ہی پتھے ہٹانے والا ہے اور تو ہر چیز پر

قَدِيرٌ ۝ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي

قادر ہے (بخاری و ترمذی) اے اللہ بخش مجھ کو اور رحم کر مجھ پر

وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَأَرْزُقْنِي ۝ رَبِّ

اور ہدایت کر مجھ کو اور عافیت دے مجھ کو اور روزی دے مجھ کو۔ اے رب

أَعِزِّي وَلَا تَعِنُّ عَلَيَّ وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ

میرے مدد کر میری اور نہ مدد کر دشمنوں کی خلاف میرا اور غلبہ دے مجھ کو اور نہ غلبہ دے

عَلَيَّ وَأَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَلَيْسِرْ

انکو مجھ پر اور تدبیر کر میرے لئے اور نہ تدبیر کر ان کیلئے میرے نقصان پر اور آسان

الْهُدَى لِي وَأَنْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ

کر ہدایت میرے لئے اور مدد کر میری اس پر جو ظلم کرے مجھ پر

رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ ذَكَرًا لَكَ شَكَرًا

اے رب میرے کر مجھ کو کہ ہوں میں تجھ کو بہت یاد کر نیوالا۔ تیرا بہت شکر

لَكَ رَهَابًا لَكَ مَطْوَأًا لَكَ مَخْبِتًا

کر نیوالا۔ تجھ سے بہت ڈرنے والا۔ تیری بہت اطاعت کر نیوالا تم سے لڑنے فرود تخی کرنے

إِلَيْكَ أَوْ أَهَامُنِي يَا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي

والا تیری طرف گڑ گڑانے والا توبہ کرنے والا۔ اے رب میرے قبول کر توبہ میری

وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ

میرا دھو اور میری لہجے والی توبہ کو اسلاہ میری کا مطلب ہے بڑا مفید مرکب

مَجْتَبَىٰ وَسَدِّ دُلسَانِي وَأَهْدِ قَلْبِي وَ

دلیل میری اور سیدھی رکھ زبان میری اور ہدایت سے دل میرے کو اور

اسْأَلُ سَخِيْبَةَ صَدْرِي ۝ اللَّهُمَّ

نکال دے کینے میرے سینہ کا اے میرے اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ

میں مانگتا ہوں تجھ سے تمام بھلائیاں دنیا کی

وَأَجَلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ

اور آخرت کی جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا اور

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَ

تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا اور آخرت کی تمام برائیوں سے

أَجَلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ اللَّهُمَّ

جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا اے اللہ میں

إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ

مانگتا ہوں تجھ سے وہ بھلائیاں جن کو مانگا تجھ سے تیرے بندے

وَنَبِيِّكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَادَ

اور تیرے نبی نے اور پناہ چاہتا ہوں تیری ان برائیوں سے جن سے پناہ

مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيِّكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

چاہی تیرے بندے اور تیرے نبی نے اے اللہ حقیقی میں مانگتا ہوں تجھ

الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ

سے جنت اور ہر وہ بات یا عمل جو جنت کے قریب کرے -

عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ

اور پناہ چاہتا ہوں تیری دوزخ سے اور ہر اس بات یا عمل سے

إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ

جو دوزخ کے قریب کرے اور مانگتا ہوں تجھ سے کہ کر دے

تَجْعَلَ كُلَّ قَضَائِي خَيْرًا ۝ اللَّهُمَّ

ہر فیصلہ تقدیر میرے حق میں بہتر اے میرے اللہ

اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِي

کشانہ رکھنا مجھ پر رزق اپنا میرے بڑھاپے

وَانْقِطَاعِ عُمْرِي ۝ اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا

اور میری عمر کے ختم ہونے تک اے اللہ تو ہم کو زیادہ دے اور

تَنْقُصْنَا وَاکْرِمْنَا وَلَا تَهِنَّا وَاعْطِنَا

گھٹا نہیں اور عزت دے ہم کو اور نہ ذلیل کر ہمیں اور عطا کر ہم کو

لَا تَحْرِمْنَا وَاتِّرْنَا وَلَا تَوْتِرْ عَلَيْنَا وَأَرْضِنَا

اور نہ محروم کر ہمیں اور غلبہ دے ہمیں (دشمنوں پر) اور نہ غالب کر ہم پر

وَأَرْضِ عَنَّا ۝ اللَّهُمَّ انْفَعِنِي بِمَا

(دشمنوں کو) اور راضی کر ہم کو اپنی رضا پر) اور راضی ہو ہم سے۔ اے اللہ نفع دے مجھ

عَلَّمْتَنِي وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي

کو ساعۃ اس کے جس کھا یا تو نے مجھے اور سکھا مجھ کو جو نفع دے مجھ کو اور زیادہ

عِلْمًا - الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

کر مجھے علم۔ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے ہر حال میں

وَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ ۝

اور میں پناہ مانگتا ہوں ساعۃ اللہ کے دوزخیوں کے حال سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالتَّقَىٰ

اے اللہ تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے ہدایت

وَالْعَفَاةَ وَالْغِنَى ۝ اللَّهُمَّ

اور پرہیزگاری اور عفت اور (خلق سے) بے پروائی اے اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَ

تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے صحت (تندرستی) اور عفت اور دیانتداری

الْإِمَانَةَ وَحُسْنَ الْخَلْقِ وَالرِّضَاءَ بِالْقَدْرِ

اور خوش خلقی اور راضی رہنا تقدیر پر

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ التَّفَاقُحِ وَعَمَلِي

اے اللہ پاک کر دے دل میرا نفاق سے اور عمل میرا

مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكِبْذِ

ریاء و نمود سے اور زبان میری

وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ

اور آنکھ میری خیانت سے، بے شک تو جانتا ہے

خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی چھپی باتیں - (بہیتی)

اللَّهُمَّ اجْعَلْ سِرِّيَّتِي خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَّتِي

اے اللہ کر دے میرے باطن کو اچھا میرے ظاہر سے

وَاجْعَلْ عَلَانِيَّتِي صَالِحَةً. اللَّهُمَّ إِنِّي

اور کر دے میرے ظاہر کو بہت اچھا اے اللہ میں

أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنْ

مانگتا ہوں تجھ سے اچھی چیز جو عطا کرتا ہے تو لوگوں کو

الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَالِدِ غَيْرِ الضَّالِّ وَالْ

اہل اور مال اور اولاد سے جو نہ آپ گمراہ ہوں اور

لَا الضَّالِّ (انزویہ) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ

دوسرے کو گمراہ کرنے والے ہوں۔ اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے محبت تیری اور

وَحُبِّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي

محبت اس کی جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور محبت اس عمل کی جو پہنچائے مجھ کو

وَيَلْغِي حُبِّكَ - اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ

میری محبت کو۔ اے اللہ! کر محبت اپنی بہت پیاری میری طرف

إِلَى مَنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

میری جان سے اور میرے اہل سے اور ٹھنڈے پانی سے

اللَّهُمَّ اصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةٌ

اے اللہ! تو میرے دین کو سوار سے جو حفاظت کرنے والا ہے میرے

أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي

کام کی اور میری دنیا سوار سے جس میں میری روزی ہے

وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي

اور میری آخرت سوار سے جہاں میں نے لوٹ کر جانا ہے

وَأَجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ

اور بنا دے زندگی میری کو ہر بھلائی کی زیادتی کا سبب

وَأَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ

اور موت کو ہر برائی سے راحت کا

شَرِّهِمْ سَلَامٌ لِّبَيْتِكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ إِنَّمَا

باعث غلام تیرے حضور حاضر ہے اے اللہ غلام حاضر ہے بیشک

الْخَيْرِ خَيْرِ الْآخِرَةِ ۝ طبرانی اللَّهُمَّ إِنَّكَ

بھلائی۔ آخرت کی بھلائی ہی ہے اے اللہ بے شک تو

قُلْتَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِنَّكَ

نے کہا ہے دعا کرو مجھ سے قبول کروں گا دعا تمہاری اور بیشک

لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا

تو خلاف نہیں کرتا وعدہ کو اور حقیقت میں مانگتا ہوں تجھ سے جیسی کہ

هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي

ہدایت کی تو نے مجھ کو واسطے اسلام کے، نہ چھین لینا اس کو مجھ سے

حَتَّى تَوْفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ رَبِّ اغْفِرْ

یہاں تک کہ مارے تو مجھ کو درحالیکہ میں مسلمان ہوں۔ اے رب بخش

وَأَرْحَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ ۝

اور رحم کر حقیقت تو غمناک۔ بزرگ تر ہے

اللَّهُمَّ اهْدِنِي بِالْهُدَى وَنَقِّنِي بِالتَّقْوَى

اے اللہ ہدایت کر مجھ کو سیدھی راہ کی اور پاک کر مجھ کو ساتھ تقویٰ کے

وَاعْفِرْ لِي فِي الْأُخْرَةِ وَالْأُولَى ○

ابنہ
ابن شیبہ

اور بخش مجھ کو آخرت میں اور دنیا میں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے علم نفع دینے والا اور رزق

وَاسِعًا وَشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ ○

مسترد
حاکم

کشاہدہ اور شفاء ہر مرض سے

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضِدِي وَنَصِيرِي بِكَ

اے اللہ تو ہی میرا قوت بازو ہے اور میرا مددگار ہے ساتھ تیری مدد کے

أَحْوَلُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَقَاتِلُ ○

(ترمذی)

قوت حاصل کرتا ہوں اور تیری ہی مدد (دشمن پر حملہ کرتا ہوں اور تیری توفیق سے لڑتا ہوں)

وَلَا أَحْوَلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ - اللَّهُمَّ

اور نہیں ہے بچنا (گناہ) سے اور نہ طاقت (نیکی کی) مگر ساتھ تیرے - اے اللہ

إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ

ہم تجھ ہی کو دشمنوں کے سینوں کے سامنے کرتے ہیں اور تجھ سے پناہ مانگتے ہیں

مِنْ شُرُورِهِمْ ۝ اللَّهُمَّ مَنْزِلَ

(الوادود)

ان کے شر سے اے اللہ اتارنے والے

الْكِتَابِ وَجُرِي السَّحَابِ وَهَارِمَ

کتاب کے اور چلانے والے بادل کے اور شکست دینے والے

الْأَحْزَابِ أَهْرِمَهُمْ وَأَنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ۝

شکروں کے، شکست دے ان کو اور مدد دے ہم کو ان پر

اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتَنَا وَأَمِنْ رُوعَاتِنَا ۝

اے اللہ ڈھانپ عیب ہمارے اور امن دے ہم کو گھبراہٹوں سے

اللَّهُمَّ رَحْمَتِكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي

اے اللہ میری رحمت کا امیدوار ہوں۔ پس نہ حوالے کر مجھ کو

إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي

میرے نفس کے ایک لمحہ اور سنوار دے سب

شَاغِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ۝ (البرادؤد) اللَّهُمَّ

کام میرے، نہیں کوئی معبود سوا تیرے اے اللہ

لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ

تیرے ہی لئے ہے سب تعریف پوری۔ نہیں کوئی تنگ کرے جو اس کو تو فراخ کرے

وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، وَلَا هَادِيَ لِمَنْ

اور نہیں فراخ کرنے والا کوئی۔ جس کو تو تنگ کرے اور نہیں کوئی راہ دکھانے والا

أَضَلَّتْ، وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلَا

جس کو تو گمراہ کرے اور نہیں کوئی گمراہ کرنے والا جس کو تو راہ دکھائے اور نہیں

مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ

کوئی دینے والا روزی جس کو تو نہ دے اور نہیں کوئی روکنے والا جس کو تو دے

وَلَا مُقَرَّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلَا مُبَاعِدًا

اور نہیں کوئی قریب کرنے والا جس کو دور کرے تو (رحمت سے) اور نہیں کوئی

لِمَا قَرَّبْتَ - اللَّهُمَّ اَبْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ

دیری رحمت سے، دور کرنا جس کو تو قریب کرے۔ اے اللہ فراخ کر ہم پر

بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ

برکتیں اپنی اور رحمت اپنی اور فضل اپنا اور رزق اپنا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النِّعِيمَ الْمُبْقِيَةَ

اے اللہ تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے نعمت ہمیشہ رہنے والی

الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ - اللَّهُمَّ

جو نہ بگڑے اور نہ جھاتی رہے - اے اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ

تحقیق میں مانگتا ہوں امن خوف کے دن

اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِدٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا

اے اللہ تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں شائد تیرے اس چیز کی برائی سے جو

أَعْطَيْتَنَا وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا - اللَّهُمَّ

تو نے ہم کو دی ہے اور اس چیز کی برائی سے جو تو نے ہم کو نہیں دی ہے اے اللہ

حَبِيبِ الْيَمَانِ الْإِيْمَانَ وَرِزْيَهُ فِي

ہم کو ایمان محبوب کر اور آراستہ کر اسے

قُلُوبِنَا وَكَرِهَةُ الْيَتَا الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ

ہمارے دلوں میں اور ناپسند کر ہم کو کافر ہونا اور فاسق ہونا۔

وَالْعُصْيَانِ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ

اور نافرمان ہونا۔ اور کر ہم کو ہدایت والوں میں سے

اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَالْحَقْنَا بِالصَّالِحِينَ

اے اللہ مار ہم کو مسلمان، اور ملا ہم کو سائنق نیکو کاروں کے

غَيْرِ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ. اللَّهُمَّ قَاتِلِ

ایسی حالت میں کہ نہ بخوار ہوں اور نہ فتنہ زدہ۔ اے اللہ مار

(سہ حاشیہ ۱۲۹) اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں برائی بھی ہو سکتی ہے مثلاً مال اس

سے سبک کر بھی آجاتا ہے۔ پھر اگر مال سے زکوٰۃ نہ دی جائے تو پہلی مال روزخ میں

بجائے گا۔ ایسے ہی اللہ کی اور بہت سی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ اگر ان کو اللہ کی مرضی

کے مطابق استعمال کریں گے۔ تو سعادت اور خوش بختی ہے۔ اور اگر ان کا ناجائز

استعمال کریں گے تو آدمی کے لئے شر بن جائیں گی۔

(سہ حاشیہ ۱۲۵) بعض ایسی چیزیں ہیں۔ جن سے آدمی محروم ہوتا ہے تو یہ محروم

آدمی ان چیزوں کو دوسرے کے پاس دیکھ کر کڑھتا اور حسد کرتا ہے یہ کڑھنا اور

حسد کرنا اس چیز کا شتر ہے جو نہیں ملی۔ اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔

الْكَفْرَةَ الَّذِينَ يُكْذِبُونَ رُسُلَكَ

کافروں کو جو جھٹلاتے ہیں تیرے رسولوں کو۔

وَيَصِدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمُ

اور دوکتے ہیں لوگوں کو تیری راہ سے اور کر ان پر

رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ إِلَهَ الْحَقِّ آمِينَ ○ (نسائی)

عذاب اپنا اور ہلاکی اپنا۔ اسے سچے معبود یہ دعا قبول کر۔

أَيُّونَ تَأْتِيُونَ عَابِدُونَ لِلرَّبِّ أَحَادِيدُونَ ○

ہم پیرنے والے ہیں، تو یہ کرنے والے ہیں۔ بندگی کرنے والے ہیں واسطے اپنے پروردگار

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ - لَا

کے حمد کرنیوالے ہیں۔ نہیں کوئی معبود مگر اللہ بزرگ بردبار۔ نہیں

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

کوئی معبود مگر اللہ پروردگار عرش عظیم کا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ

نہیں کوئی معبود مگر اللہ پروردگار آسمانوں کا اور پروردگار

بخاری

الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ○

زمین کا اور پروردگار عرش بزرگ کا

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ اللَّهُمَّ

اور سب تعریف اللہ کیلئے ہے جو پروردگار سب جہانوں کا ہے۔ اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ عِبَادِكَ ○

تخفیف میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے تیرے بندوں کے شر سے

اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ○

اللہ (بیشک) اللہ ہی ہے رب میرا نہیں شریک کرتا ہوں میں سلاحتہ اسکے کسی چیز کو

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ○

بھروسہ کیا میں نے اوپر (اس) زندہ ذات کے جو زمرے -

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ○

اور نسب تعریف ہے واسطے اللہ کے جس نے نہیں پکڑی اولاد اور

لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ○

نہیں ہے اسکا کوئی شریک بادشاہت میں - اور نہیں

يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبْرًا تَكْبِيرًا ۝

ہے اسکے لئے دوست ذلت سے بچانے والا اور بڑائی کرا سکی بہت سی بڑائی

يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ ۝

اے سدا زندہ اے سب کے بھانسنے والے ساتھ رحمت تیری کے میں فریاد کرتا ہوں

اللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ وَاِبْنُ عَبْدِكَ وَاِبْنُ

اے اللہ میں بندہ تیرا ہوں اور بیٹا تیرے بندے کا ہوں اور بیٹا

اَمَّتِكَ نَاصِيَّتِيْ بِيَدِكَ مَا ضَرَفِيْ

تیری لونڈی کا ہوں۔ پیشانی میری تیرے ہاتھ میں ہے۔ چھری ہے میرے حق میں

حُكْمُكَ عَدْلٌ فِىْ قَضَائِكَ اَسْأَلُكَ بِجُلِّ

حکم تیرا ہے عدل ہے میرے حق میں فیصلہ تیرا۔ مانگتا ہوں میں تجھ سے ساتھ

اِسْمِهِ وَاَنَّكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ

ہر نام کے کہ وہ ثابت ہے تیرے لئے (اور) اس سے تو نے اپنی ذات کا نام رکھا ہے

تو یعنی میں پورا پورا تیرے بس میں ہوں، تیرے آگے دم نہیں مار سکتا تھے یعنی تیرے حکم کو

توقف نہیں۔ تو جو چاہے سو کرے تھے یعنی میرے معاملہ میں تیری تقدیر عدل ہے

جو فیصلہ تو میرے بارے میں کرے۔ انصاف ہی انصاف ہے!

أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا

تو نے اس کو اپنی کتاب میں نازل کیا یا سکھایا تو نے اس کو اپنی محسوق میں

مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمٍ

سے کسی کو یا پسند کیا ہے تو نے اس کو نزدیک اپنے علم

الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

غیب میں یہ کہ بنا دے تو قرآن بزرگ کو

رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ بَصَرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي

بہار میرے دل کی اور روشنی میری آنکھوں کی اور دور کرنے والا میرے غم کا

وَذَهَابَ هَمِّي ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اور لے جانے والا میرے رنج کا نہیں کوئی لائق عبادت کے مگر اللہ

الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ

تھم کرنے والا عزت والا ، پاک ہے اللہ پروردگار

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

عرش عظیم کا اور سب تعریف اللہ کو ہے جو پالنے والا ہے

الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ

سب جہانوں کا، مانگتا ہوں میں تجھ سے وہ کام جو سبب ہیں تیری رحمت کے

وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ

اور موجب ہیں تیری بخشش کے اور (مانگت ہوں) غنیمت

كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ

ہر نیکی سے اور سلامتی ہر گناہ سے،

لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا

نہ چھوڑ میرا کوئی گناہ مگر بخش دے اس کو اور نہ

هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةَ هِيَ

کوئی غم مگر دور کر اس کو اور نہ کوئی حاجت کہ وہ

لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ

تیری مرضی کے موافق ہو مگر پوری کر تو اس کو اے مہربان

(رژندی) الرَّاحِمِينَ ○

سب مہربانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

لے اللہ رحمت بھیج اوپر محمد کے اور اوپر آل محمد کے

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ

جیسے رحمت بھیجی تو نے اوپر ابراہیم کے اور

عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ۝

اوپر آل ابراہیم کے بیشک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ برکت بھیج اوپر محمد کے اور اوپر

آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى

آل محمد کے جیسے برکت بھیجی تو نے اوپر ابراہیم

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

کے اور اوپر آل ابراہیم کے

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ۝

بیشک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔



دوشنبہ

مجھے آہ و فغانِ نیم شب کا پھر پیام آیا
متمم اے راہرو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا

منزل تیسری — دوشنبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع ساتھ نام اللہ بخش کرنے والے مہربان سے

اللّٰهُمَّ اَلْفَ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَاَصْلِحْ

اے اللہ الفت ڈال درمیان ہمارے دلوں کے اور اصلاح کر

ذَاتَ بَيْنِنَا وَاَهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ

درمیان ہمارے اور دکھا ہم کو راستے سلامتی کے اور نجات دے ہم

وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَجَنِّبْنَا

کو گناہوں کے اندھیروں سے طرف ہدایت کی روشنی کے اور بچا ہم کو گناہوں

الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَ

سے جو کچھ ظاہر ہوئے ان میں سے اور جو کچھ چھپے ہیں اور برکت دے

بَارِكْ لَنَا فِيْ اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا

ہمارے لئے ہماری سماعتوں اور ہماری بینائیوں میں اور ہمارے دلوں میں

وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ

اور ہماری بیبیوں میں اور ہماری اولاد میں اور قبول کر تو یہ ہماری۔ تحقیق تو یہی

أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ

تو یہ قبول کرنے والا بہر بان ہے۔ اور کر ہم کو شکر کرنے والا اپنی

لِنِعْمَتِكَ مُتْنِينَ بِهَا قَالِيهَا وَأَتَمَّهَا

نعمت کا۔ تعریف کرنے والا اسکا۔ قبول کر نیو الا اسکا اور پوری کر اسکو

عَلَيْنَا ۝ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ

ہم پر لے اللہ بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر اور راضی ہو

عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا

ہم سے اور قبول کر ہم سے اور داخل کر ہم کو جنت میں اور نجات دے

مِنَ النَّارِ وَأَصْلِحْ لَنَا شَانَا كُلَّهُ ۝

ہم کو آگ سے اور سوار دے ہمارے لئے سب کام ہمارے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ

لے اللہ تحقیق میں مانگتا ہوں بجز سے ثابت رہنا امر دین میں

وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرَّشْدِ وَأَسْأَلُكَ

اور مانگتا ہوں تجھ سے ہمت ہدایت اور مانگتا ہوں تجھ سے

شُكْرُ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ

شکر تیری نعمت کا اور خوبی تیری عبادت کی اور مانگتا ہوں تجھ سے

لِسَانَ صَادِقٍ وَقَلْبًا سَلِيمًا وَخُلُقًا

زبان سچی اور دل سلامت دہرنے والا اور عبادت میں

مُسْتَقِيمًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ

راستبازی کی اور پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے اس چیز کی برائی سے کہ جانتا

وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ

جسے تو اور مانگتا ہوں تجھ سے بھلائی اس چیز کی کہ جانتا ہے تو اور بخشش مانگتا

مِمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

ہوں تجھ سے اس گناہ سے کہ جانتا ہے تو بیشک تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ

اے اللہ نصیب کر ہم کو خوف اپنے سے وہ چیز کہ حائل ہو تو بسبب اسکے

بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ

درمیان ہمارے اور درمیان گناہوں لینے کے اور نصیب کر

طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَ

ہم کو طاعت اپنی کہ پہنچائے تو ہم کو بسبب اسکے بہشت اپنے میں اور

مِنَ الْيَقِينِ مَا تَهْوُونَ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ

نصیب کر یقین سے کہ آسان کرے تو بسبب اس کے ہم پر مصیبتیں دنیا

الدُّنْيَا وَمَتَّعُنَا بِسَمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَ

کی اور فائدہ مند کر ہم کو ساتھ شنوائیوں ہماری کے اور بینائیوں ہماری کے

قُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ

اور قوت ہماری کے جب تک تو زندہ رکھے ہم کو اور کر فائدہ مندی کو وارث

مِنَّا وَاجْعَلْ شَارِنَا عَلَيَّ مَنْ ظَلَمْنَا وَانصُرْنَا

ہمارا اور کر غصہ ہمارا اس پر جس نے ظلم کیا ہم پر اور مدد دے ہم کو

عَلَيَّ مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا

اس پر کہ دشمن رکھے ہم کو اور نہ کر مصیبت ہماری

فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ

دین ہمارے میں اور نہ کر دُنیا کو بہت بڑا

هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عَلَيْنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا

علم ہمارا اور نہ نہایت علم ہمارے کی اور نہ مسلط کر ہم پر

مَنْ لَا يَرْحَمُنَا ۝ اللَّهُمَّ الْهِمِّنِي

اس کو جو نہ رحم کرے ہم پر اے اللہ ڈال میرے دل میں

رَشْدِي وَأَعِزِّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي ۝

ہدایت میری اور بچا مجھ کو میرے نفس کی برائی سے

اللَّهُمَّ قِنِي شَرِّ نَفْسِي وَأَعِزِّمْ لِي عَلَيَّ

اے اللہ بچا مجھ کو میرے نفس کی برائی سے اور حکم کو میرے لئے

رَشْدِ أَمْرِي - اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ

میرے کام کی بھلائی پر۔ اے اللہ بخش مجھ کو وہ گناہ کہ پوشیدہ کئے ہیں نے

وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَخْطَأْتُ وَمَا عَمِدْتُ

اور ظاہر کئے ہیں نے اور چوک کر کئے ہیں نے اور جو جان کر کئے ہیں نے

وَمَا جَعَلْتُ ۝ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَاقِبَةَ

اور نادانی سے کئے میں نے مانگتا ہوں میں اللہ سے عاقبت

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

دنیا میں اور آخرت میں اے اللہ تحقیق میں مانگتا ہوں

فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَ

بجھ سے توفیق نیکیوں کے کرنے کی اور برائیوں کے چھوڑنے کی اور

حُبِّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي

محبت مسکینوں کی اور یہ کہ بخشے تو مجھ کو اور رحم کرے تو مجھ پر

وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ

اور جب چاہے تو کسی قوم کے ساتھ فتنہ پس مار مجھ کو ایسے کہ میں

مَفْتُونٍ ۝ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ

فتنہ میں نہ پڑوں اور مانگتا ہوں تجھ سے محبت تیری اور اسکی جو محبت

يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ ۝

کرتا ہے تجھ سے اور محبت اس عمل کی کہ نزدیک کرے تیری محبت کی طرف

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي

اے اللہ نصیب کر مجھ کو محبت اپنی اور محبت اس شخص کی کہ نفع دے مجھ کو

حُبُّهُ عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ فَكَمَا رَزَقْتَنِي مِمَّا

محبت اسکی تیرے نزدیک اے اللہ پس جیسے کہ نصیب کی تو نے مجھ کو وہ چیز کہ

أُحِبُّ فَأَجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيهَا تَحِبُّ اللَّهُمَّ

دوست رکھتا ہوں میں پس کر اسکو سبب میری قوت کا اس چیز میں کہ دوست رکھتا ہے تو

مَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ فَأَجْعَلْهُ فَرَاغًا

اے اللہ اور وہ چیز کہ باز رکھی تو نے مجھ سے اس چیز سے کہ دوست رکھتا ہوں میں کر اس کو

فِيهَا تَحِبُّ ۝ اللَّهُمَّ صَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَ

سبب میری فراغت کا پہنچ اس چیز کہ دوست رکھتا ہوں اے اللہ فائدہ مند کر مجھ کو ساتھ میری

بَصَرِي وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي وَ

سماعت کے اور ساتھ میری بینائی کے اور کر ان کو وارث مجھ سے اور

انصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي وَخُذْ مِنْهُ

مدد دے مجھ کو اس شخص پر کہ ظلم کرے مجھ پر اور لے اس سے

بِثَارِي ۝ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي ^{ترزی}

بدلہ میرا اے دلوں کے پھرنے والے ثابت رکھ دل میرا

عَلَى دِينِكَ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا ^{ترزی یسائی}

اپنے دین پر اے اللہ تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے وہ ایمان

لَا يَرْتَدُّ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةً نَبِيِّنَا

جو پھر نہ جلتے اور وہ نعمت جو فنا نہ ہو اور رفاقت نبی اپنے

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت خلد کے اعلیٰ

دَرَجَةٍ جَنَّةِ الْخُلْدِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

درجہ میں اے اللہ تحقیق میں مانگتا ہوں

صِحَّةً فِي إِيْمَانٍ وَإِيْمَانًا فِي حُسْنِ خُلُقٍ

تجھ سے صحت ایمان میں اور ایمان اچھے خلق میں اور

وَنَجَاحًا تَتَّبِعُهُ فَلَاحًا وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَ

مراد پہنانا جسکے پیچھے تو رستگاری لئے اور مانگتا ہوں تجھ سے

عَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا ۝ اللَّهُمَّ

رحمت اور عافیت اور بخشش مجھ سے اور خوشنودی اے اللہ

بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ

ساتھ اپنے علم غیب کے اور ساتھ اپنی قدرت کے اور پر خلق کے

أَحْيَيْتَنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّي وَتَوَفَّيْتَنِي

زندہ رکھ مجھ کو جب تک جانے تو زندگی کو بہتر میرے لئے اور وفات

إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّي - اللَّهُمَّ رَإِنِّي

دے مجھ کو جب جانے تو وفات کو بہتر میرے لئے اے اللہ میں

أَسْأَلُكَ خَشْيَتِكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

مانگتا ہوں تجھ سے خست تیرا باطن اور ظاہر میں

وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالغَضَبِ

اور مانگتا ہوں میں تجھ سے کلمہ حق کہنا حالت خوشی میں اور غضب

وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى

میں اور مانگتا ہوں میں تجھ سے میان روی بیچ محتاجی اور ثروت کے

وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْقُضُ وَقَرَّةَ عَيْنٍ

اور مانگتا ہوں تجھ سے وہ نعمت کہ نہ فنا ہو اور ٹھنڈک آنکھ کی

لَا يَنْقُطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ

کہ موقوف نہ ہو اور مانگتا ہوں تجھ سے راضی ہونا تیجھے قضاء کے

وَبَرْدِ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةِ النَّظَرِ

اور ٹھنڈک زندگی کی تیجھے مرنے کے ، اور لذت دیکھنے کی

إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ

طرف تیرے چہرے کے اور شوق تیری ملاقات کا ، بغیر

ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ - اللَّهُمَّ

کسی تکلیف کے جو نقصان پہنچائے اور بغیر فتنہ کے جو گمراہ کرے اے

زَيْنًا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدًى

اللہ اے کہ ہم کو ساتھ زینت ایمان کے اور کر ہم کو راہ دکھانے

مُهْتَدِينَ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

والے راہ دہنے والے اے اللہ تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے

مَنْ الْخَيْرُ كُلُّهُ عَاجِلِهِ وَاجِلِهِ مَا عَمِلَتْ

تمام بھلائیاں دنیا کی اور آخرت کی جو کچھ کہ میں جانتا ہوں ان

مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ

سے اور جو کچھ کہ نہیں جانتا ہوں میں اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے

كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَاجِلِهِ مَا عَمِلْتُ مِنْهُ

دنیا اور آخرت کی تمام برائیوں سے جو کچھ کہ میں جانتا ہوں ان سے

وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ۝ اے ہاں اللّٰهُمَّ احْسِنْ عَاقِبَتَنَا

اور جو کچھ کہ نہیں جانتا ہوں میں اے اللہ اچھا کر انجام ہمارا

فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ

سب کاموں میں اور بچا ہم کو

خِزْبِي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ ۝

دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے

اللّٰهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَائِمًا وَ

اے اللہ نگاہ رکھ مجھ کو ساتھ اسلام کے کھڑے رہنے کی حالت میں اور

أَحْفَظُنِي بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا وَأَحْفَظُنِي

نگاہ رکھ مجھ کو ساتھ اسلام کے بیٹھے ہوئے اور نگاہ رکھ مجھ کو

بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا وَلَا تُشِثْ بِي عَدُوًّا

ساتھ اسلام کے سوتے ہوئے اور نہ خوش کر میری مصیبت پر دشمن

وَلَا حَاسِدًا - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ

کو اور نہ حاسد کو اے اللہ تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے ہر

كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ - اللَّهُمَّ إِنِّي

بھلائی کہ خزانے اس کے تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اے اللہ تحقیق میں

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ

پناہ مانگتا ہوں تجھ سے برائی اس چیز کی سے کہ تو پکڑنے والا

بِنَاصِيئِهِ وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ

ہے بال اسکی پیشانی کے اور مانگتا ہوں تجھ سے تمام بھلائیاں

الَّذِي هُوَ بِيَدِكَ - اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ

جو تیرے ہاتھ میں ہیں اے اللہ تحقیق ہم مانگتے ہیں تجھ سے اعمال کو واجب کریں

مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَ

تیری رحمت کو اور لازم کریں تیسری بخشش اور

السَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ

سلامتی ہر گناہ سے اور غنیمت ہر

بِرٍّ وَالْفُوزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ۝

نیکی سے اور مراد پانا ساتھ جنت کے اور نجات آگ سے

اللَّهُمَّ لَا تَدْعُ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا آغْفِرْتَهُ وَلَا

اے اللہ نہ چھوڑ ہمارا کوئی گناہ جس کو تو بخش نہ دے اور نہ

هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَ

کوئی ایسا غم جس کو تو دور نہ کرے اور نہ کوئی قرض جس کو تو ادا نہ کرے

لَا حَاجَةَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اور نہ کوئی حاجت دنیا اور آخرت کی حاجتوں سے

الْأَقْضَيْتَهُمَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

جس کو تو روا نہ کرے اے بہت رحم کرنے والے سب رحم کرنے والوں سے

اللَّهُمَّ اَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ

اے اللہ مدد کر ہماری اپنے ذکر کرنے پر اور اپنے شکر کرنے پر اور اپنی

عِبَادَتِكَ ۝ اللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ عِيشَةً

مستدک حکم

اچھی عبادت کرنے پر اے اللہ تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے زندگی

تَقِيَّةً وَمِيْتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا اَخِيْرًا

پاکیزہ اور مرنا اچھا (توحید پر) اور پھرنا جو خوار نہ ہو اور نہ

مَخْزِيًّا وَلَا فَاضِحًا ۝ اللَّهُمَّ اِنِّى ضَعِيْفٌ

ضعیت کرنے والا ہو (مشرکے دن) اے اللہ تحقیق میں کمزور ہوں پس

فَقَوِّىْ رِضَاكَ ضَعْفِيْ وَخُذْ لِي الْخَيْرِ

وقت بے میری کمزوری کو اپنی خوشی کے حامل کرنے میں اور تھینچ طرف نیکی کے

بِنَاصِيْتِيْ وَاجْعَلِ الْاِسْلَامَ مِنْتَهُ رِضَايِىْ

بال میری پیشانی کے اور کہ اسلام کو میری نہایت رضامندی

اللَّهُمَّ اِنِّى ضَعِيْفٌ فَقَوِّىْ وَاِنِّى ذَلِيْلٌ

اے اللہ تحقیق میں کمزور ہوں پس قوی کر مجھ کو اور تحقیق میں ذلیل ہوں

فَاعِزَّنِي وَإِنِّي فَاقِيرٌ فَارْزُقْنِي ۝ اللَّهُمَّ

پس عزت دے مجھ کو اور تحقیق میں محتاج ہوں پس رزق دے مجھ کو

أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَأَشَىٰ مُقْبَلَكَ وَأَنْتَ الْآخِرُ

اللہ تو ہے پہلے سو نہیں پہلے تجھ سے کوئی چیز اور تو ہے پیچھے

فَلَأَشَىٰ بَعْدَكَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ

سو نہیں پیچھے تیرے کوئی چیز پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے ہر

دَابَّةٍ نَاصِيَتُهَا بِيَدِكَ وَأَعُوذُ بِكَ

زمین کے چلنے والے سے جسکی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اور پناہ مانگتا

مِنَ الْإِثْمِ وَالْكَسْلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

ہوں تجھ سے گناہ سے اور کاہلی سے اور عذاب قبر سے

وَفِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

اور محتاجی کے فتنے سے اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے

الْمَأْتِمِرِ وَالْمُغْرَمِ ۝ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ

گناہ کی جگہ حاضر ہونے سے اور قرض سے۔ اے اللہ پاک کر مجھ کو

خَطَايَايَ كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنْ

میرے گناہوں سے جیسے کہ پاک کیا تو نے کپڑا سفید

الدَّنِيسِ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ

میل سے۔ اے اللہ دوری ڈال میرے اور درمیان میرے گناہوں کے

كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

جیسے دوری ڈالی تھے درمیان مشرق اور مغرب کے

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ وَخَيْرِ

اے اللہ تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے بہترین سوال اور اچھی

الدُّعَاءِ وَخَيْرِ النَّجَاحِ وَخَيْرِ الْعَمَلِ وَ

دعا اور اچھی مراد پائی اور اچھے عمل اور

خَيْرِ الثَّوَابِ وَخَيْرِ الْحَيٰوةِ وَخَيْرِ

اچھا ثواب اور اچھی زندگانی اور اچھی

الْمَمَاتِ وَتَبَيَّنْ لِيْ وَثِقَلْ مَوَازِينِيْ وَحَقِّقْ

موت اور ثابت رکھ مجھ کو (اسلام پر) اور بھاری کر بوجھ اعمال میرے کا اور

إِيْمَانِيُّ وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي

ثابت کہ ایمان میرا اور بلند کر درجہ میرا اور قبول کر نماز میری

وَاعْفِرْ خَطِيئَتِي وَأَسْأَلُكَ دَرَجَاتِ الْعُلَا

اور بخش گناہ میرے اور مانگتے ہیں ہم تجھ سے درجے بلند

مِنَ الْجَنَّةِ أَمِيْنٌ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

جنت کے (الہی) قبول کر۔ اے اللہ تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے

فَوَاتِحِ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَةَ وَجْوَاعِمَهُ وَأَوَّلَهُ

آغاز بھلائی کے اور اس کی انتہا میں اور بھلائیوں کا اول

وَأٰخِرَهُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ وَالذَّرَجَاتِ

اور اس کا آخر اور اس کا ظاہر اور اس کا باطن اور درجے

الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ أَمِيْنٌ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

بلند بہشت کے۔ (الہی) قبول کر اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے

خَيْرِمَا آتَى وَخَيْرِمَا أَفْعَلُ وَخَيْرِمَا

نیکی اپنے لئے آئی اور نیکی اپنے کئے کی اور نیکی اپنے

اعْمَلْ وَخَيْرَ مَا بَطَّنَ وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ وَ

عملوں کی اور نیکی اسکی جو پوشیدہ ہے اور نیکی اسکی جو ظاہر ہے اور

الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ مِنَ الْجَنَّةِ أَمِينَ-اللَّهُمَّ

درجے بلند بہشت کے (الہی! قبول کر) اے اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي وَتَضَعَ وِزْرِي

تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے یہ بات کہ بلند کرے تو ذکر میرا اور دُور کر

وَتُصْلِحَ أَمْرِي وَتُطَهِّرَ قَلْبِي وَتُحْصِنَ فَرْجِي

تو بوجھ گنہ سیر کا اور اچھا کرے تو حال میرا اور پاک کرے تو دل میرا اور محفوظ رکھے تو ستر

وَتُنَوِّرَ قَلْبِي وَتَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَأَسْأَلُكَ

میرا اور روشن کرے تو دل میرا اور بخشنے تو گناہ میرے اور مانگتا ہوں

الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ مِنَ الْجَنَّةِ أَمِينَ-اللَّهُمَّ

میں تجھ سے بلند درجے بہشت کے (الہی! قبول کر) اے اللہ

(حاشیہ ص ۱۴۹) یعنی اے اللہ جو کام عبادت وغیرہ کے میں کروں تو ان کا بہتر نتیجہ نکال اور

ان کے اجر سے نواز لے اے اللہ جو باتیں میں جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا یا جو امور

ظاہر ہو چکے ہیں اور جو ابھی پوشیدہ ہیں ان کی خیر و خوبی تجھ سے چاہتا ہوں۔

إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي سَمْعِي وَفِي

تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے یہ کہ برکت دے میرے لئے سماعت میری میں اور

بَصَرِي وَفِي رُوحِي وَفِي خَلْقِي وَفِي خُلُقِي

بنیائی میری میں اور روح میرے میں اور ظاہر میرے میں اور باطن میرے میں

وَفِي أَهْلِي وَفِي مَحْيَايَ وَفِي مَمَاتِي

اور اہل و عیال میرے میں اور زندگانی میری میں اور مرنے میرے میں

وَفِي عَمَلِي وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي وَأَسْأَلُكَ

اور عمل میرے میں اور قبول کر تو نیکیاں میری اور مانگتا ہوں

الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ أَمِينَ

میں تجھ سے درجے بلند بہشت کے (الہی) قبول کر

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطِيئِي وَ

اے اللہ بخش میرے لئے گناہ میرے، اور چوک میری اور

عَمْدِي ۞ يَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعَيُونُ

دائستہ گناہ میرے۔ اے وہ ذات کہ جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں

وَلَا تَخَاطَبُهُ الظُّنُونُ وَلَا يَصِفُهُ

اور جس کی کہ ذات کو گمان نہیں پہنچ سکتے اور جسکی تعریف نہیں کر سکتے ،

الْوَاصِفُونَ وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ وَلَا

تعریف کرنے والے اور جس کو حادثے نہیں بدل سکتے - اور نہیں

يُخْشَى الدَّوَابَّ وَيَعْلَمُ مَثَاقِيلَ الْجِبَالِ

ڈرتا وہ زلزلے کی گردشوں سے اور جانتا ہے وہ وزن پہاڑوں کے

وَمَكَائِلَ الْبِحَارِ وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ

اور پیمانے دریاؤں کے اور گنتی مینہ کی بوندوں کی -

وَعَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ

اور گنتی درختوں کے پتوں کی اور گنتی اس چمڑکی کہ اندھیرا

عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَلَا

کیا ہے اس پر رات نے اور روشن ہوا ہے اس پر دن اور نہیں

تُوَارِي مِنْهُ سَمَاءُ سَمَاءٍ وَلَا أَرْضُ أَرْضًا

پھپھاسکتا اس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو اور ایک زمین دوسری

وَلَا بَحْرٌ مَّا فِي قَعْرِهِ وَلَا جَبَلٌ تَأْوِي وَعُرِهِ

زمین کو اور نہ دریا اس چیز کو جو اس کپڑے میں ہے اور نہ پہاڑ اس چیز کو جو اسکے اندر ہے

اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِيْ اٰخِرَةً وَخَيْرَ عَمَلِيْ

دلے اللہ! اگر میری آخر عمر کو بہتر عمر اور میرے آخر عمل کو

خَوَاتِيْمَهُ وَخَيْرَ اَيَّامِيْ يَوْمَ الْقَاكِ فِيْهِ۔

بہتر عمل اور کر میرے دنوں میں سے بہتر دن کو جس میں تجھ سے

يَا وِلِيَّ الْاِسْلَامِ وَاَهْلِهٖ ثَبَّتْنِيْ بِهٖ حَتّٰ

میں سے مددگار اسلام کے اور مسلمانوں کے ثابت رکھ مجھ کو اسلام پر یہاں

الْقَاكِ ۝ اللّٰهُمَّ رَازِيْ اَسْأَلُكَ غِنَايَ

تک کر جو میں تجھ سے۔ اے اللہ! تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے بے بزدائی

وَعِنَا مَوْلَايَ ۝ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ صَبُوْرًا

اپنی خلق سے اور بے پروائی دوستوں کی۔ اے اللہ! کر مجھ کو بہت صبر کرنے والا

وَاجْعَلْنِيْ شَكُوْرًا وَاجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ صَغِيْرًا

اور کر مجھ کو بہت شکر کرنے والا اور کر مجھ کو میری آنکھوں میں چھوٹا

وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي

اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا اے اللہ تحقیق

أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَتَرَكْتُكَ الْمُنْكَرَاتِ

میں مانگتا ہوں تجھ سے پاکیزہ چیزیں اور چھوڑتا ہوں بری باتوں کا -

وَحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ

اور محبت مسکینوں کی اور یہ کہ توبہ کی توفیق دے مجھ کو

وَأِنْ أَرَدْتُ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً أَنْ تَقْبِضَنِي

اور اگر چاہے تو اپنے بندوں کے ساتھ فتنہ (یعنی بلا اتارے) تو اٹھا لے مجھ

إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

کو طرف اپنی بغیر فتنہ میں مبتلا کرنے - اے اللہ تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے

عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا ۝ اللَّهُمَّ

علم نفع دینے والا اور عمل مقبول اے اللہ

إِنِّي أَسْتَهْدِيكَ لِأَرْشِدِ أَمْرِي وَأَعُوذُ بِكَ

تحقیق میں رہنما چاہتا ہوں تجھ سے اس کا آ کی جو بہتر ہو میرے لئے اور بناؤ

مِنْ شَرِّ نَفْسِي ۝ اَبْتَانِ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ

جاہتا ہوں تجھ سے اپنے نفس کی برائی سے۔ اے اللہ! تجھ سے اپنے کاموں میں کاسیابی کی اور

لِذَنْبِيْ وَاَسْتَهْدِيْكَ لِمَرَاثِدِ اَمْرِيْ وَا

اپنے گناہوں کی اور راہنماؤں چاہتا ہوں تجھ سے اپنے کاموں میں کاسیابی کی اور

اَتُوْبُ اِلَيْكَ فَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ رَبِّيْ

توہ کرتا ہوں طرف تیری پس لوٹ آجھ پر بیشک تو ہی ہے میرا رب

اَللّٰهُمَّ فَاجْعَلْ رَغْبَتِيْ اِلَيْكَ وَاَجْعَلْ

اے اللہ! پس کر رغبت میری طرف اپنی اور کر

عِنَايَ فِیْ صَدْرِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِیْمَا

تو نگہی میری میرے سینے میں اور برکت دے مجھ کو اس چیز میں

رَزَقْتَنِيْ وَتَقَبَّلْ مِنِّيْ اِنَّكَ اَنْتَ رَبِّيْ ۝

جو تو نے مجھ کو دی اور قبول کر مجھ سے بیشک تو ہی ہے میرا رب

يَا مَنْ اَظْهَرَ الْجَمِيْلَ وَسَتَرَ الْقَبِيْحَ يَا

اے وہ ذات کہ جس نے ظاہر کی خوبی اور چھپا دی برائی۔ اے

مَنْ لَا يُؤْخَذُ بِالْجَرِيرَةِ وَلَا يَهْتَكُ

وہ کہ نہیں پکڑتا سبب گناہوں کے اور نہیں پردہ دری

السِّتْرِ يَا عَظِيمَ الْعَفْوِ يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ

کرتا۔ اے بڑے معاف کرنے والے اے اچھے درگزر کرنے والے

يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ

اے کشادہ بخشش والے۔ اے دونوں ہاتھوں کو کھولنے والے

بِالرَّحْمَةِ يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى يَا مُتَهَيِّئِ

ساتھ رحمت کے ، اے مالک ہر بھید کے ، اے انتہا

كُلِّ شَكْوَى يَا كَرِيمَ الصَّفْحِ يَا عَظِيمَ

ہر شکایت کے ، اے اچھے درگزر کرنے والے اے بہت احسان

الْمَنْ يَا مُبْدِيَّ النِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا

کرنے والے اے نعمتوں کے شروع کرنیوالے ان کے مستحق ہونے سے پہلے

اے یعنی بہ مجرد گناہوں کے صادر ہونے کے نہیں پکڑتا۔ بلکہ توبہ کے لئے
مہلت دیتا ہے یہ کہ درگزر فرماتا ہے۔

يَا رَبَّنَا وَيَا سَيِّدَنَا وَيَا مَوْلَانَا وَيَا غَايَةَ

لئے پڑو دگار ہمارے اور لے مزار ہمارے اور لے مالک ہمارے اور لے انتہار

رَغِيْبِنَا اَسْئَلُكَ يَا اللهُ اَنْ لَا تَشْوِي

ہماری رغبت کے ، مانگتا ہوں میں تجھ سے لے اللہ یہ کہ نہ جلانا

خَلْقِي بِالنَّارِ ۝ تَمَّ نُوْرُكَ فَهَدَيْتَ

مستور مبرہ کو آگ میں پورا ہوا نور ہدایت تیرا پس سیدھی راہ دکھائی

فَلَكَ الْحَمْدُ عَظُمَ حِمْلُكَ فَعَفَوْتَ

تو نے پس تیرے لئے ہے سب تعریف بڑی ہوئی بڑباری تیری پس بخشا تو نے

فَلَكَ الْحَمْدُ بَسَطْتَ يَدَكَ فَاَعْطَيْتَ

(بندوں کو) پس تیرے لئے سب تعریف فراخ ہوا ہاتھ تیرا پس دیا تو نے ہر کسی

فَلَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا وَجْهَكَ اَكْرَمُ

کو پس تیرے لئے سب تعریف ہے رب ہمارے تیری ذات سب ذاتوں سے

الْوُجُوْهِ وَجَاهُكَ اَعْظَمُ الْجَبَابِلِ وَ

بزرگ سے اور رتبہ تیرا سب رتبوں سے بڑا ہے اور

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عَطِيَّتِكَ أَفْضَلُ الْعَطِيَّةِ وَاهْنَاهَا

بخشش تیری سب بخششوں سے افضل ہے اور بہت گوارا ہے

تُطَاعُ رَبَّنَا فَتَشْكُرُ وَتُعْصِرُ رَبَّنَا فَتَغْفِرُ

اطاعت کیا جاتا ہے تو اے رب ہمارے پس ثواب دیتا ہے تو اور نافرمانی کیا جاتا ہے تو

وَتَجِيبُ الْمُضْطَرَّ وَتَكْتُمُ الضُّرَّ وَ

اے رب ہمارے پس بخشتا ہے اور قبول کرتا ہے مٹھا عاجز کی اور دور کرتا ہے مضمحل

تَشْفِي السَّقِيمَ وَتَغْفِرُ الذَّنْبَ وَتَقْبَلُ

اور شفا دیتا ہے تو بیمار کو اور بخشتا ہے تو گناہ کو اور قبول کرتا ہے

التَّوْبَةَ وَلَا يَجْزِي بِالْأِيكِ أَحَدٌ وَلَا

تو توبہ اور نہیں بدلہ دیتا تیری نعمتوں کا کوئی اور نہیں

يَبْلُغُ مَدْحَتِكَ قَوْلٌ قَائِلٌ ۝ اللَّهُمَّ

پہنچ سکتا تیری تعریف کو کلام کسی کلام اگر نیا لے گا اے اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّ

تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے فضل تیرا اور رحمت تیری کیونکہ رحمت

لَا يَدْرِكُهَا إِلَّا أَنْتَ ۝ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا

کا مالک سوا تیرے کوئی نہیں ہے اللہ بخش ہم کو

ذُنُوبِنَا وَظَلَمْنَا وَهَزَلْنَا وَجِدْنَا وَخَطَأْنَا

گناہ ہمارے اور ظلم ہمارے اور بیہودگیاں ہماری اور قصداً گناہ ہمارے اور

وَعَمَدْنَا وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدَنَا ۝

چوک ہماری اور دستہ گناہ ہمارے اور ان سب پاپوں سے ہماری نادر بھی ہے

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِ السَّبِيلَ

اے رب میرے بخش اور رحم کر اور مجھ کو سیدھی راہ

الْأَقْوَمَ ۝ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

دکھا اے اللہ پروردگار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے

اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَ

تو میرے گناہ بخش اور میرے دل کا غصہ دور کر اور بچا مجھ

أَجْرْتِي مِنْ مَضَلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا ۝

کو گمراہ کرنے والے فتنوں سے جب تک تو ہم کو زندہ رکھے

اللَّهُمَّ لِقَبِي حُجَّةَ الْإِيمَانِ عِنْدَ الْمَمَاتِ

اے اللہ! سمجھا مجھ کو دلیل ایمان کی (دکھائیے بغیرہ) مرنے کے وقت

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَهُ

ساتھ نام اللہ کے جو نہیں پہنچا سکتی نقصان اس کے نام کے ساتھ

أَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَ

کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں اور

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ

وہ سُننے والا جاننے والا ہے پاک ہے اللہ اور

بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَانَفْسِهِ وَزِينَةِ

ساتھ تعریف اپنی کے اپنی مخلوق کی گنتی کے برابر اور اپنی ذات کی

عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ۝ سُبْحَانَ اللَّهِ

خوشنودی کے موافق اور عرش کے وزن اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ پاک ہے اللہ

وَبِحَمْدِهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ

اور ساتھ اپنی تعریف کے نہیں طاقت مگر ساتھ اللہ کے جو چاہے اللہ

كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ

وہی ہوتا ہے اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا میں جانتا ہوں کہ بیشک

اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ

اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور بیشک اللہ کے

قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ لَا إِلَهَ

علم نے کبھی رکھا ہے ہر چیز کو نہیں کوئی مہبود

إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ

مگر اللہ ایک زبردست پروردگار آسمانوں کا

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

اور زمین کا اور اسکا جو دونوں کے درمیان زبرد بخشنے والا

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ

اے اللہ تو ہے سلام اور تجھ ہی سے ہے سلامتی

تَبَارَكَتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

برکت والا ہے تو اے صاحب بزرگی اور بخشش کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اکیلا ہے اسکا کوئی شریک نہیں

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

اشی کے لئے بادشاہت اور اسی کے لئے ہے سب تعریف اور وہ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ

ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ نہیں کوئی روکنے والا تیری عطا کو

وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ

اور نہیں کوئی عطا کرنے والا تیرے روکنے کو اور نہیں نفع دیتی

ذَٰلِ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا

دولت مند کو تیرے عذاب سے دولت مند ہی - اللہ کے سوا کوئی معبود

اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں - اسی کیلئے ہے بادشاہت

وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اور اسی کے لئے ہے سب تعریف اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا

نہیں پھرنا گناہ سے اور نہ طاقت عباد کی مگر اللہ کی مدد سے اللہ کے سوا

اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ

کوئی معبود نہیں اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں وہی ہے نعمت کا مالک

وَلَهُ الْفُضْلُ وَالْشَّانُ الْحَسَنُ

اور اسی کی ہے بزرگی اور اسی کے لئے ہے سب تعریف اچھی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں خالص کرتے ہیں ہم اسی کیلئے عبادت

وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝ اللَّهُ أَكْبَرُ

اور اگرچہ بڑا منائیں کافر ۔ اللہ بہت بڑا ہے

كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ

بڑا اور سب تعریف اسی کے لئے ہے بہت پاک یاد کرنا

اللَّهُ بِكُرَّةٍ وَأَصِيلًا ۝ سُبْحَانَكَ

ہوں اللہ کو صبح اور شام پاک ہے تو

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

اے اللہ رب ہمارے اور سائے تعریف اپنی کے ہے تو اے اللہ بخشدے

سُبُوْحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ

بُحُّو كُو پاك ہے نہایت پاک پروردگار فرشتوں کا اور

الرُّوْحِ ۝ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

جبریل کا اے اللہ رب ہمارے تیرے لئے ہے تعریف

مِلَءَ السَّمٰوٰتِ وَمِلَءَ الْاَرْضِ وَمِلَءَا مَا

آسمانوں بھر اور زمین بھر اور بقدر بھرنے

بَيْنَهُمَا وَمِلَءَا مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

اس چیز کے کہ درمیان ان کے ہے اور بقدر بھرنے اس چیز کے کہ چاہے

اَهْلَ الشَّنَآءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالِ

تو کسی چیز سے بعد اس کے۔ اے صاحب تعریف! او بزرگی کے، تو لائق تر ہے

الْعِبَادِ وَكُلَّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا

اس چیز سے کہ کہے بندہ اور ہم سب تیرے بندے ہیں نہیں کوئی روکتے

أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَىٰ لَهَا مَنَعَتْ وَلَا

والا اس چیز کہ دی تو نے اور نہیں کوئی دینے والا اس چیز کو کہ روکی تو نے

يَنْفَعُ ذَا الْجَبَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ۝ سُبْحَانَ

اور نہیں نفع دیتی دولت مند کو تیرے غذاب سے وہ تمندی۔ پاک ہے

ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ

صاحبِ عجبے کا اور بادشاہت اور بڑائی

وَالْعِظَمَةِ ۝ اللَّهُمَّ لَكَ رُكُوعٌ وَبِكَ

اور بزرگی کا اے اللہ واسطے تیرے رکوع کیا میں نے

أَمَنْتُ وَكَأَنَّكَ أَسْلَمْتُ خَشَعْتُ لَكَ سَمِعْتُ

اور تجھ پر ایمان لایا میں اور تیرا حکم بڑا رہا میں۔ دب گئے تیرے آگے

وَبَصَرِي وَمِنْخِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي

کان میرے اور آنکھ میری اور گودہ میرا اور ہڈی میری اور سٹھے میرے

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَ

اے اللہ تجھے سجدہ کیا میں نے اور تجھ پر ایمان لایا میں اور

وَلَاكُ اسْمُتُ سَجْدًا وَبِحِيٍّ لِلَّذِي خَلَقَهُ

اور تیرا حکم بردار ہو امیں۔ سجدہ کیا میرے بہرے نے واسطے اس فرات

وَصَوْرَةً وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ

کے جس نے پیدا کیا اس کو اور صورت بنائی اسکی اور کھولے کان اسکے اور نکلیں

اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ اللَّهُمَّ

اسکی اور برکت والا ہے اللہ بہتر ہے سب بنانے والوں کا۔ اے اللہ

اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجِلَّةً وَأَوْلَهُ

بخش دے میرے گناہ سب چھوٹے اسکے اور بڑے اسکے اور اگلے

وَأٰخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّةً ۝ رَكَعٌ

اس کے اور پچھلے اس کے اور ظاہر اس کے اور چھپے اسکے جھک گیا

لَكَ سَوَادِيٌّ وَخِيَالِيٌّ وَأَمِّنَ بِكَ فَوَادِيٌّ

تیرے آگے ظاہر میرا اور باطن میرا اور ایمان لایا تجھ پر دل میرا

أَبُوهُ يُنْعَمُ بِكَ عَلَىٰ هَذِهِ يَدَايِ وَمَا

اقرار کرتا ہوں میں تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے (مولا) یہ ہیں ہاتھ میرے اور جو

جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي ۝ اللَّهُمَّ سَجَدًا

گناہ کئے ہیں نے اپنی جان پر اے اللہ سجدہ کیا تجھ کو

لَكَ سَوَادِي وَخَيَالِي وَبِكَ أَمَنْ

ظاہر میرے نے اور باطن میرے نے اور ایمان لایا تجھ پر

فُوَادِي أَبُو عَرَبِيَّتِكَ عَلَيَّ وَهَذَا مَا

دل میرا - اقرار کرتا ہوں میں تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے اور یہ ہے

جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ

جو کچھ گناہ کئے ہیں نے اپنی جان پر، اے بزرگ ، اے بزرگ

اغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

بخش مجھ کو پس تحقیق نہیں بخشتا بڑے گناہوں کو

الْعَظِيمَةَ إِلَّا الرَّبُّ الْعَظِيمُ ۝ سُبْحَانَ

کوئی سوائے رب عظیم کے پاک ہے

ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي

صاحب ملک کا اور بادشاہت کا پاک ہے صاحب

الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي

عزت اور قدرت کا - پاک ہے وہ زندہ جو کبھی نہ

لَا يَمُوتُ أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ

میرے گا - پناہ مانگتا ہوں میں ساتھ معفوئیے کے عذاب تیرے

وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ

سے اور پناہ مانگتا ہوں میں ساتھ خوشنودی تیری کے غضب تیرے سے اور پناہ

بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجْهُكَ ۝ رَبِّ اعْطِ

مانگتا ہوں میں ساتھ تیرے عذاب تیرے بزرگ سے ذات تیری اے رب میرے

نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ

میرے نفس کو اسکی پرہیزگاری اور پاک کر اس کو تو سب سے بہتر

مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيَّهَا وَمَوْلَاهَا

پاک کرنے والا ہے نفس کو تو اس کا کارساز اور مالک ہے

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ

اے اللہ بخش مجھ کو جو گنہ پوشیدہ کئے ہیں اور ظاہر کئے ہیں

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ ۝

اے زندہ اے سب کے تھامنے والے ساتھ تیری رحمت کے میں فریاد کرتا ہوں

اللَّهُ أَكْبَرُ وَبِاللَّهِ الْحَمْدُ - اللَّهُ أَكْبَرُ

اللہ بہت بڑا ہے اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے اللہ بہت بڑا ہے

وَبِاللَّهِ الْحَمْدُ - اللَّهُ أَكْبَرُ وَبِاللَّهِ الْحَمْدُ

اور سب تعریف اللہ کیلئے ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے اور سب تعریف اللہ کیلئے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

ہے نہیں کوئی معبود مگر اللہ تنہا نہیں کوئی شریک اس کا

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ - اللَّهُمَّ اهْدِنِي

اسی کے لئے ہے بادشاہت اور اسی کے لئے سب تعریف اے اللہ

بِالْهُدَى وَنَقِّنِي بِالتَّقْوَى وَاغْفِرْ لِي

دکھا مجھ کو سیدھی راہ اور پاک کر مجھ کو ساتھ تقویٰ کے اور

فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ۝

بخش مجھ کو آخرت میں اور دنیا میں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

لے اللہ رحمت بھیج اوپر محمد کے اور اوپر آل

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

محمد کے جیسے رحمت بھیجی تو نے اوپر ابراہیم کے

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

اور اوپر آل ابراہیم کے تحقیق تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے

مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

لے اللہ برکت بھیج اوپر محمد کے اور

عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى


اوپر آل محمد کے جیسے برکت بھیجی تو نے اوپر

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

ابراہیم کے اور اوپر آل ابراہیم کے تحقیق

حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝

تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے



لا پھراک باروہی بادوہ وجام اے ساقی!
ہاتھ آجائے مجھے میرا مقام اے ساقی

منزل چوتھی — سہ شنبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 تم کو اسلحا تمام اللہ بخشش کرنے والے مہربان کے

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائيلَ وَ

اے اللہ پالنے والے، جبرائیل اور میکائیل اور

اسْرَافِیلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

اسرافیل کے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ

جہاننے والے پوشیدہ اور ظاہر کے تو حکم کرتا ہے

بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

درمیان اپنے بندوں کے جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔

اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ

ہدایت کر مجھ کو اس چیز میں کہ اختلاف کیا گیا ہے اس میں حق سے

يَا ذِيكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَىٰ

ساتھ اپنے حکم کے، بیشک تو ہدایت کرتا ہے جسکو چاہتا ہے طر

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

راستے سیدھے کے پاک ہے تو ہے اللہ

وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ

اور اپنی خوبیوں کے ساتھ اور برکت والا ہے نام تیرا اور بلند ہے

حَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ۚ اللَّهُ أَكْبَرُ

شان تیری اور نہیں کوئی مقبول سوائے تیرے اللہ بہت بڑا ہے

كَبِيرًا أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّبِيعِ الْعَلِيمِ

بڑا میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ اللہ سننے والے جانتے والے

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزَةٍ وَ

کے شیطان مردود سے اس کے خطرے او

نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ۚ اللَّهُ أَكْبَرُ ۚ اللَّهُ

اللہ کے پھونکنے اور اس کے وسوسے سے اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ

اَكْبَرُ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ ذُو السَّلْوَٰتِ وَ

بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے صاحب بادشاہت کا اور

الْجَبْرُوٰتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعُظْمٰۤى

غیبی کا اور بڑائی کا اور بزرگی کا

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِىْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ

اے اللہ ہدایت کر مجھ کو ان لوگوں میں کہ ہدایت کی تو نے اور عافیت

فِىْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّيْتَنِيْ فِىْمَنْ تَوَلَّيْتَ

مے مجھ کو ان لوگوں میں کہ عافیت دی تو نے اور کار سازی کر میری ان لوگوں میں

وَبَارِكْ لِيْ فِىْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرًّا

کہ کار سازی کی تو نے اور برکت مے مجھ کو اس چیز میں کہ دی تو نے اور بچا مجھ کو

قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰۤى عَلَيْكَ

بجی جو حکم کیا تو نے، پس تحقیق تو حکم کرتا ہے اور نہیں حکم کیا جاتا تجھ پر

اِنَّهٗ لَا يَزِيْلُ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَغْزُو

تحقیق بات یہ ہے کہ نہیں زایل ہوتا جسکو تو دوست رکھے اور نہیں عزت پاسکتا

مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَ

جس کو تو دشمن رکھے بابرکت ہے تو اے رب ہمارے اور

تَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نَتُوبُ

بند ہے تو بخشش مانگتے ہیں ہم تجھ سے اور رجوع کرتے ہیں

إِلَيْكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ۝

ہم تیری طرف اور درود بھیجے اللہ نبی پر

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ

اے اللہ! ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں

وَ نُسُئْتِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلَا نَكْفُرُكَ

اور تعریف کرتے ہیں تیری بھلائی سے اور نہیں ناشکری کرتے تیری نعمت

نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ

کی۔ الگ ہوتے ہیں ہم اور چھوڑتے ہیں اسکو جو نافرمانی کرتا ہے تیری راے اللہ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ لَكَ نَصَلِّي وَ نَسْجُدُ

ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی سنے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں

وَالْيَاكُ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَحْتَسِي عَذَابَكَ

اور تیری طرف دوڑتے ہیں ہم اور تیری خدمت میں حاضر ہیں ہم اور ڈرتے ہیں تجھے

الْجِدِّ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ إِنَّ عَذَابَكَ

عذاب حق سے اور امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی۔ بے شک تیرا عذاب

الْجِدِّ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ ۝ اللَّهُمَّ

حق کافروں کو ملنے والا ہے لے اللہ

اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

بخش ہم کو اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالَّذِينَ

اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اور الفت ڈال

بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ

ان کے دلوں کے درمیان اور اصلاح کر ان کے درمیان

وَأَنْصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ

اور مدد دے ان کو اپنے دشمن اور ان کے دشمن پر

اللَّهُمَّ الْعِنَ الْكُفْرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ

اے اللہ لعنت کر کافروں کو جو روکتے ہیں

عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَنِّبُونَ رَسُولَكَ وَ

راہ تیری سے اور جھٹلاتے ہیں تیرے رسولوں کو اور

يُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ - اللَّهُمَّ خَالَفُ

بڑھتے ہیں تیرے دوستوں سے - اے اللہ پھوٹ ڈال

بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَ

درمیان ان کی باتوں کے اور پھسلانے قدم ان کے اور

أَنْزِلْ بِهِمْ بِأَسْكَ الذِّي لَا تَرُدُّهُ

آرا ان پر عذاب اپنا جو نہیں روکتا ہے تو

عَنِ الْقَوْمِ الْمَجْرِمِينَ ۝ اللَّهُمَّ

اس کو کافروں کی قوم سے اے اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ الْإِحْسَادَ الصَّمَدَ وَ

تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے اے معبود برحق بے نیاز

الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ

وہ جو نہیں جنما اور نہیں جنا گیا اور نہیں ہے اس

لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي

کے لئے کوئی ہمسر یہ کہ بخش تو میرے لئے گناہ میرے

إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ نَسَائِ

بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے ۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا

اے اللہ حقیقت میں مانگتا ہوں تجھ سے بھلائی اس چیز کی کہ مانگا اسکو تجھ

سَأَلْتُكَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ وَ

سے تیرے نیک بندوں نے اور پناہ

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَادَمِنَهُ عِبَادُكَ

مانگتا ہوں میں تجھ سے اس چیز کی برائی سے کہ پناہ مانگی اس

الصَّالِحُونَ ۝ خَيْرًا تَلَقَّاهُ وَشَرًّا

سے تیرے نیک بندوں نے بھلائی پاؤ گے تم اور بچو گے

تَوْقَاهُ خَيْرَ النَّاسِ وَشَرَّ الْأَعْدَاءِ نَسَاءِ

برائی سے بھلائی ہمارے لئے ہے اور برائی ہمارے (دین کے) دشمنوں کیلئے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ اللَّهُمَّ

سب تعریف اللہ پروردگار سب جہانوں کیلئے ہے اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَسَيِّئَاتِهِ

تحقیق میں پناہ چاہتا ہوں ساتھ تیرے شیطان کے عمل سے اور بڑے

الْأَحْلَامِ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ شَيْئًا ○ اللَّهُمَّ

خواب سے پس تحقیق وہ کوئی شے نہیں ہے اے اللہ

إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ

تحقیق میں بھلائی مانگتا ہوں تجھ سے تیرے علم کی مدد اور قدرت مانگتا

بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

ہوں تجھ سے تیری قدرت کے وسیلے سے اور مانگتا ہوں میں تجھ سے تیرے

الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ○

بڑے فضل سے پس تحقیق تو قدرت رکھتا ہے (ہر چیز پر) اور

تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

میں کچھ بھی قدرت نہیں لکھتا اور جانتا ہے تو اور نہیں جانتا میں اور تو ہی بے پناہ جانتا

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا

والا ہے فیہوں گا۔ اے اللہ اگر جانتا ہے تو کہ تحقیق یہ کام بہتر ہے میرے

الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَ

لئے میرے دین میں اور میری زندگی میں اور

عَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ عَاجِلِ أَمْرِي وَاجِلِهِ

میرے کام کے انجام میں یا اس جہان میں اور اس جہان میں

فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي

پس پر سے قابو میں کر دے اسکو اور میرے لئے آسان کر دے اسکو پھر بیکر

فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ

لئے برکت دے اس میں اور اگر تحقیق جانتا ہے تو کہ تحقیق یہ کام

شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ

بڑا ہے میرے لئے میرے دین میں اور میری زندگی میں اور میرے کام کے

أَمْرِي أَوْ عَاجِلِ أَمْرِي وَأَجَلِهِ فَاصْرِفْهُ

انجام میں یا اس جہان میں اور اس جہان میں پس پھیر اس کو

عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ

مجھ سے اور پھیر مجھ کو اس سے اور مہیا کر میرے لئے بھلائی

(حسن حسین)

حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ

جہاں کہیں ہو پھر راضی کر مجھ کو ساتھ اس کے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ

اے اللہ بخفیق میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ تیری رضامندی کے تیرے عصبے سے

وَبِعَافَاتِكَ مِنْ عِقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ

اور ساتھ تیری معافی کے تیرے عذاب سے اور پناہ مانگتا ہوں

بِكَ مِنْكَ لِأُحْصِيَ ثَنَاءً عَلَيْكَ

ساتھ تیرے تیری خنٹی سے نہیں گن سکتا میں تعریف تیری

أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

تو ویسا ہی جیسی تعریف کی تو نے لہن ذات کی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اکیلا ہے نہیں شریک اس کا

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى

اسی کے لئے ہے بادشاہی اور اسی کے لئے سب تعریف اور وہ ہر

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ

پیمز پر قادر ہے اور پاک ہے اللہ اور سب تعریف

بِاللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ أَكْبَرُ وَ

اسی کے لئے ہے اور نہیں کوئی معبود اور اللہ بہت بڑا ہے اور

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ رَبِّ اغْفِرْ لِي

نہیں ہے پھر ناگاہ سے اور نہ قوت عبادت پر مگر اللہ کی مدد سے اے رب بخش

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ

وے مجھ کو۔ اے اللہ تیرے ہی لئے ہے سب تعریف تو ہی قائم رکھنے والا ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ

آسمانوں اور زمین کا اور جو ان میں ہیں

وَلَاكُ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ

اور تیرے ہی لئے ہے سب تعریف تو روشن کرنے والا ہے آسمانوں

وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَاكُ الْحَمْدُ

اور زمین کا اور جو ان میں ہیں اور تیرے ہی لئے ہے سب

أَنْتَ الْحَقُّ وَعُدُّكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ

تعریف تو ہی ہے حق اور وعدہ تیرا ہے حق اور ملاقات تیری ہے

حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ

حق اور کلام تیرا ہے حق اور بہشت ہے حق اور

وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ

دوزخ ہے حق اور سب نبی ہیں حق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ

ہیں حق اور قیامت ہے حق اے اللہ واسطے تیرے

أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ

مطیع ہوا میں اور تجھ پر ایمان لایا میں اور

تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ انْتَبْتُ وَبِكَ

مجھ پر بھروسہ کیا میں نے اور تیری طرف رجوع کیا میں نے اور تیری ہی

خَاصَّتْ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَأَعْفِرْ لِي

مرد سے (دشمنوں سے) جھگڑنا ہوں میں اور طرف غیری ہی فریاد لایا ہوں پس بخش

مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ

مجھ کو جو اگے کیا میں نے اور جو پیچھے کروں گا میں اور جو چھپایا میں نے

وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي

اور جو ظاہر کیا میں نے اور وہ گناہ (مجھ کی بخش) جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے

أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا

تو ہی اگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے نہیں کوئی

إِلَّا الْإِلَٰهَ أَنْتَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ ۝

معبود مگر تو اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے نہیں

إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ

کوئی معبود مگر تو ، پاک ہے تو یا الہی اور

بِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَ

تسبیح کرتا ہوں ساتھ تعریف تیری کے بخشش چاہتا ہوں میں تجھ سے اپنے گناہوں

أَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا

کی اور مانگتا ہوں تجھ سے رحمت تیری۔ یا الہی زیادہ کر مجھ کو علم اور

وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَ

مزگج کر دل میرا پیچھے اس کے کہ راہ دکھائی تو نے مجھ کو۔ اور

هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ

بخش مجھ کو اپنی جناب سے رحمت تحقیق، تو

أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي

بہت بخشنے والا ہے اے اللہ رحم کر مجھ پر

يَتْرِكُ الْبِعَاصِيَ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي

ساتھ چھوڑنے گناہوں کے ہمیشہ۔ جب تک باقی رکھے تو مجھ کو

وَارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْزِيئُنِي

اور رحم کر مجھ پر ساتھ چھوڑنے اس بات کے کہ تکلف کروں میں اس چیز کا کہ نہیں

وَأَرْزُقْنِي حُسْنَ النَّظْرِ فِيمَا يُرْضِيكَ

منور مجھ کو، اور نصیب کر مجھ کو خوبی دیکھنے کی اس چیز میں کہ راضی کرے

عَنِّي اللَّهُمَّ رَيْدِيَعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وہ تجھ کو مجھ سے۔ اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے

ذَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي

صاحب عزت اور بزرگی کے اور صاحب اس غلبے کے کہ جس کا

لَا تُرَامُ أَسْئَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ

کوئی قسم نہ کر سکے۔ مانگتا ہوں میں تجھ سے اے اللہ اے رحمن

بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ

ساتھ تیری عزت اور ساتھ تیرے منہ کے نور کے کہ مجھ سے میرے

قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي

دل میں یاد اپنی کتاب کی جیسے سکھائی تو نے مجھ کو۔

وَأَرْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوهُ عَلَى النَّحْوِ

اور نصیب کر مجھ کو پڑھنا اس کا اس طرح پر

الَّذِي يُضِيكَ عَنِّي ط اللَّهُمَّ بَدِّيعِ

کہ راضی کرے وہ تجھ کو مجھ سے لے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اور زمین کے ، صاحب عزت اور بخشش کے اور

وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تَرَامُ أَسْئَلُكَ يَا اللَّهُ

صاحب اس غلبے کے کہ جس کا کوئی نقص نہ کر سکے مانگتا ہوں میں تجھ

يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ

سے لے اللہ اے رحمن ساتھ برکت تیری عزت اور تیرے منہ کے نور

تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصِيرَتِي وَأَنْ تُطْلِقَ

کے یہ کہ روشن کرے تو ساتھ اپنی کتاب کے آکھ میری اور یہ کہ جاری کرے

بِهِ لِسَانِي وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَن قَلْبِي وَ

تو اس سے زبان میری اور یہ کہ کھولے تو اس سے دل میرا اور یہ

أَنْ تَسْرِحَ بِهِ صَدْرِي وَأَنْ تَغْسِلَ

کہ کشادہ کرے تو اس سے سینہ میرا ، اور یہ کہ دھوئے تو

بِهِ بَدَنِي فَاِنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَ الْحَقِّ

اس سے بدن میرا۔ تحقیق بات یہ ہے کہ کوئی میری مدد نہیں کرتا حق پر

غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ

سوا تیرے اور کوئی نہیں دیتا حق کو سوا تیرے اور نہیں پھر ناگناہ

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝

سے اور نہ طاقت عبادت پر مگر ساتھ مدد اللہ بلند مرتبہ بزرگ قدر کے

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ

اے اللہ کفایت کر مجھ کو ساتھ حلال اپنے کے حرام اپنے سے

وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ۝

اور بے پروا مجھ کو ساتھ اپنے فضل کے اپنے سوا ہر کسی سے

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا

پاک ہے تو سے اللہ اور پاک یاد کرتے ہیں ہم تجھے نہیں کوئی معبود

أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ۝

مگر تو بخشش مانگتا ہوں میں تجھ سے اور توبہ کرتا ہوں میں تیری طرف

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ

اے اللہ تحقیق میں بندہ تیرا ہوں، اور بیٹا بندے تیرے کا ہوں۔

وَابْنُ أُمَّتِكَ وَفِي قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِي

اور بیٹا لونڈی تیری کا ہوں اور تیرے قبضہ میں ہوں۔ بال پیشانی میری

بِيَدِكَ مَاضٍ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ

کے تیرے ہاتھ میں ہیں، جاری ہے میرے حق میں حکم تیرا۔ انصاف ہے

فِي قَضَائِكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ إِلَهٍ هُوَ

میرے امر میں قضا تیری۔ مانگتا ہوں میں تجھ سے ساتھ برکت، برنام کے

لَكَ سَهَّيْتُ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ

کہ وہ واسطے تیرے سے نام رکھا تو نے ساتھ اسکے ذات اپنی کا یا آمارا

فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ

تو نے اس کو کتاب اپنی میں یا سکھایا تو نے وہ کسی کو اپنی

خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي مَكْنُونٍ

مخلوق میں سے یا اختیار کیا تو نے اس کو پر وہ غیب میں

الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ

زردیک اپنے یہ کہ کرے تو قرآن کو

رَبِيعَ قَلْبِي وَجَلَاءَ هَيْبِي وَغَمِّي ۝

بہار میرے دل کی اور دور کرنے والا میرے غم اور اندیشے کا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا

اے اللہ تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ عزت تیری کے نہیں کوئی معبود

أَنْتَ أَنْ تَصَلِّيَنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي

مگر تو۔ اس سے کہ گمراہ کرے تو مجھ کو۔ تو زندہ ہے کہ نہیں

لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ ۝

مرے گا اور جن اور انسان مریں گے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ

اے اللہ تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے چار چیزوں سے

مَنْ عِلْمٌ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا

اس علم سے کہ نفع نہ دے اور اس دل سے کہ عاجزی

يُخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَهُ شُبْعٌ وَمِنْ

ذکرے اور اس نفس سے کہ سیر نہ ہو اور اس

دُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ

دعا سے جو قبول نہ کی جائے اے اللہ تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں

بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بئْسَ الضَّيِّعُ

تجھ سے بھوک سے پس تحقیق وہ بڑی بے ہم خواب

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بئْسَتْ

اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے خیانت سے پس تحقیق وہ بڑی بے

الْبَطَانَةِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

خصلت اے اللہ تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے

لہ بھوک اس لئے بڑی ہم خواب یا سامھی ہے کہ اس سے قوی اور جو اس مفہول

ہو جاتے ہیں اور بدن کمزور اور لاغر۔ پھر آدمی نہ دنیا کے کام کر سکتا ہے نہ

دین کے۔ اللہ ہمیشہ کی بھوک سے پناہ دے۔

سے اللہ کی سب نافرمانیاں خیانت میں داخل ہیں، لوگوں کے مالوں کی بھی خیانت ہوتی

ہے۔ بعض باتیں۔ بھید اور مشورے ظاہر کرنے بھی خیانت ہے۔

مِنَ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ

جہتی کی مخالفت سے اور نفاق سے اور بُرے اخلاق سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ

اے اللہ تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کوڑھ سے

وَالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَمِنْ سَيِّئِ

اور جزام سے اور دیوانگی سے اور بُری (لاعلاج)

الْإِسْقَامِ (انسائی) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

بیماریوں سے - اے اللہ تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے

مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَشَرِّ بَصَرِي وَ

اپنی شنوائی کی برائی سے اور اپنی بینائی کی برائی سے اور

شَرِّ لِسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ مَنِي

اپنی زبان کی برائی سے اور اپنے دل کی برائی سے اور اپنی منی کی برائی سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ

اے اللہ تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے مکان کے تہجے دب کرنے سے

وَاعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرْدِيِّ وَمِنَ

اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے مکان سے گر کر مرنے سے اور ڈوب

الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهُرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ

کرنے اور جل کر مرنے سے اور بہت بڑھلے (سزا بہتر ابوسے) اور پناہ

مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ

مانگتا ہوں تجھ سے کہ حیران کرے مجھ کو شیطان نزدیک

الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ

مرنے کے اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس سے کہ مروں

فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

میں تیری راہ میں پیٹھ دے کر اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس

أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا ۝ ^(بہر داؤں) أَعُوذُ بِكَ كَمَا نَزَلَتْ

سے کہ مروں میں سانپ وغیرہ کے ٹسنے سے پناہ مانگتا ہوں میں ساتھ

اللَّهُ السَّامَاتِ مِنْ غَضَبِهِ

اللہ کے پورے لہموں کے اس کے غضب سے

وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتٍ

اور اسکے عذاب کے اور اسکے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے

الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَّحْضُرُونَ ۝

وسوسوں سے اور اس سے کہ حاضر ہوں شیطان میرے پاس

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ

اے اللہ تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ ترے محتاجی سے اور پناہ

بِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالذُّلِّ وَأَعُوذُ بِكَ

مانگتا ہوں تجھ سے قلت سے اور ذلت سے اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے

مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ۝ اللَّهُمَّ

اس سے کہ ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے عجز سے اور سستی سے اور

وَالْجُبْنِ وَالْمَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ

نامردی سے اور بیمید، لورٹھا ہونے سے اور قرض سے اور گناہ سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَ

اے اللہ تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اگ کے عذاب سے اور

فِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ

اگ کے فتنے سے، اور قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب

الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ

سے اور تو نگرہی کے فتنے کی برائی سے اور محتاجی کے فتنے

الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

کی برائی سے اور کانے دجال کے فتنے کی برائی سے۔

اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلَجِ وَ

اے اللہ دھو گناہ میرے سامقہ پانی برف کے اور

الْبُرْدِ وَنِقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا

ادلے کے اور پاک کر دل میرا گناہوں سے جیسا

يُنَقِّي الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ

پاک کیا جاتا ہے کیسٹا سفید میل سے۔

وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا

اور دوری ڈال درمیان میرے اور درمیان میرے گناہوں کے جیسے

بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ۝

دوری ڈالی تو نے درمیان مشرق کے اور مغرب کے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَ

اے اللہ تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے عاجز ہونے سے اور

الْكِسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ

کاہلی سے اور نامردی سے اور بیحد بوطحا (سزا بہتر) ہونے سے اور پناہ

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

مانگتا ہوں تجھ سے عذاب قبر سے اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے

فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ۝ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

فتنہ زندگی سے اور فتنہ موت سے اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے

الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذَّلَّةِ

سنگلی سے اور (عبادت کی) غفلت سے اور فقر و فاقہ اور آلت

وَالْمُسْكَنَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ

اور مفلسی سے اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے محتاجی سے اور

الْكَفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالشَّقَاقِ وَالسَّمْعَةِ

کفر اور نافرمانی اور دھتکی، مخالفت سے اور نمود

وَالرِّيَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمِّ وَ

اور ریاکاری سے اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے بہرا اور

الْبُكْمِ وَالْجُنُونِ وَالْجَذَامِ وَسَيِّئِ

گونگا ہونے سے اور دیوانہ ہونے سے اور کوڑھ اور تمام بُری

الْأَسْقَامِ وَضَلَعِ الدِّينِ ۝ اللَّهُمَّ

(دعا علاج) بیماریوں سے اور قرض کے بوجھ سے اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَ

تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے فکر اور غم سے اور

الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ

عاجزی سے اور کاپلی اور بچھیل اور نامردی

وَضَلَعَ الدِّينَ وَغَلَبَةَ الرِّجَالَ ۝ اللَّهُمَّ

اور قرص کے بوجھ سے اور آدمیوں کے غلبے سے اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ

تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے بخیلی سے اور پناہ مانگتا

مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ

ہوں تجھ سے نامردی سے اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس سے کہ

إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

پیراجاؤں طرف خوار سر کے اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے

فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ

دنیا کے فتنے سے اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے عذاب

الْقَبْرِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

قبر سے اے اللہ تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے

الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ

نامردی اور بخیلی سے اور عمر کی برائی سے اور

الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ۝ اللَّهُمَّ إِنَّا

کے فتنے سے اور عذاب قبر سے اے اللہ تحقیق ہم

نَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ

پناہ مانگتے ہیں تجھ سے بلا کی مشقت سے اور بد بختی کے

الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ ۝

یا لینے سے اور بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ

اے اللہ تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے بُرے

الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ ۝

اخلاق سے اور بُرے اعمال سے اور بُری خواہشوں اور بُری بیماریوں سے

(حاشیہ ۱۹۶) ادا امر الہی کی تعمیل کیلئے ہمت ناپانامین یعنی نامردی ہے۔

۱۷ مال سے زکوٰۃ نہ دینا بخل ہے جو جہنم میں لے جائے گا۔

۱۸ عمر کی برائی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں گز سے یا معیشت کی تنگی اور فقر وفاقہ ہو

۱۹ سینے کے فتنے شرکیہ عقیدے اور حسد و بغض کینہ وغیرہ — اللہ ان سے بچائے

۲۰ بلا کی مشقت یہ ہے کہ رزق کم اور اولاد کی کثرت ہو۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ

اے اللہ تحقیق ہم مانگتے ہیں تجھ سے بھلائی اس چیز کی کہ مانگی

مِنْهُ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

تجھ سے تیرے نبی نے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں

سَلَامٌ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ

اور پناہ مانگتے ہیں ہم تجھ سے اس چیز کی برائی سے کہ

مِنْهُ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

پناہ مانگی اس تیرے نبی نے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَامٌ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ

سلم ہیں اور تو مدد مانگا گیا ہے اور تجھ پر

الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۝

کفایت اور نہیں ہے پھر مانگا ہوں اور نہ طاقت عباد پر مگر اللہ کی مدد سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ

اے اللہ تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے بُرے ہمسائے سے

فِي دَارِ الْبُقَامَةِ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ

سکونت کے گھر میں پس تحقیق ہمایہ جنگل کا

يَتَحَوَّلُ ۝ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكُفْرِ

بدل جاتا ہے پناہ مانگتا ہوں میں ساتھ اللہ کے کفر

وَالَّذِينَ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوذُ بِكَ

اور قرض سے اے اللہ تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے

مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الْعَدُوِّ وَ

قرض تلے دب جانے سے اور دشمن کے غلبے سے اور

شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوذُ بِكَ

دشمنوں کے خوش ہونے سے اے اللہ تحقیق ہم پناہ مانگتے ہیں

اَنْ نُّرْجِعَ عَلٰى اَعْقَابِنَا اَوْ نُفْتَنَ عَنْ

ساتھ تیرے اس سے کہ پھریں ہم اپنی اٹیڑیوں پر (مردہ ہوں) یا فتنے میں ڈالے

لے جو ہمایہ اپنے پاس ملک میں رہتا ہو۔ اگر برا ہے تو ساری عمر کے لئے عذاب

ہے بر غلامت سفر کے ہمایہ کے کہ وہ چلا جاتا ہے۔ اس کی تکلیف دائمی

نہیں ہوتی۔

دِينَنَا ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

جائیں اپنے دین سے۔ اے اللہ! تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تجھ

مِنْ يَوْمِ السُّوءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ

سے بُرے دن سے اور بُری رات سے

وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ وَمِنْ صَاحِبِ

اور بُری گھڑی سے اور بُرے یار

السُّوءِ وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ

سے اور بُرے ہمسایہ سے سکونت کے

الْمُقَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ مَصْرِفَ الْقُلُوبِ

گھر میں اے اللہ! دلوں کے پھیرنے والے

صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَي طَاعَتِكَ ۝ اللَّهُمَّ

پھیر دے دل ہمارے اپنی طاعت پر اے اللہ!

اهْدِنِي وَسِدِّدْنِي ۝ يَا رِضْوَانِي

راست بٹھے مجھ کو اور استقامت بٹھے مجھ کو اے زمین میرا رُخ

وَرَبُّكَ اللَّهُ ۖ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ

اور تیرا رب اللہ ہی ہے میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ اللہ کے ترے

وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكَ

شر سے اور تیرے اندر کی چیزوں کے شر سے اور جو کچھ تیرے اندر پیدا کیا گیا ہے اسکے شر

وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكَ وَاَعُوذُ بِاللَّهِ

سے اور جو کچھ تجھ پر چلتا ہے اسکے شر سے اور پناہ مانگتا ہوں اللہ کی

مِنْ اَسَدٍ وَّ اَسْوَدٍ وَّمِنَ الْحَيَّاتِ وَّ

شیر سے اور کالے ناگ سے اور سانپ سے اور

الْعَقْرَبِ وَّمِنْ شَرِّ سَاكِنِي الْبَلَدِ

بچھو سے اور شہر کے رہنے والوں کے شر سے

وَمِنْ وَاٰلِي وَّمَا وُلْدٍ ۝ اَللّٰهُمَّ

اور شیطان اور اس کی اولاد سے اے اللہ

اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوْقِ وَّ

تمہیں میں مانگتا ہوں تجھ سے بھلائی اس بازار کی اور

خَيْرَ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا

بھلائی جو بازار میں ہے اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے بازار کی برائی سے

وَشَرِّ مَا فِيهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

اور جو برائی بازار میں ہے اے اللہ تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے

أَنْ أُصِيبَ فِيهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً ○

کہ پہنچوں میں اس میں معاملہ نقصان کو۔

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ

اے اللہ پروردگار ہمارے اور پروردگار ہر چیز کے میں گواہی دینے والا ہوں

أَنَّكَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

تحقیق تو پروردگار ہے یگانہ نہیں کوئی شریک تیرا

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ

اے اللہ پروردگار ہمارے اور پروردگار ہر چیز کے میں گواہی دینے والا

أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُكَ

ہوں کہ تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں

وَرَسُوْلِكَ - اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ

اور رسول تیرے۔ اے اللہ پروردگار ہمارا اور پروردگار ہر چیز کے

شَيْءٍ اِنَّا شٰهِدٌ اَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ

نیں گواہی دینے والا ہوں کہ تحقیق بندے مسلمان سب

اِخْوَةٌ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ

بھائی ہیں آپس میں۔ اے اللہ پروردگار ہمارا اور پروردگار ہر چیز کے

بِاجْعَلْنِيْ مُخْلِصًا لِّكَ وَاَهْلِيْ فِيْ كُلِّ

کہ مجھ کو مخلص واسطے اپنے اور اہل میرے کو

سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ذَا الْجَلَدِ

برساعت میں (موتوں) دنیا میں اور آخرت میں اے صاحب بزرگی

وَالاِكْرَامِ اِسْمِعْ وَاسْتَجِبْ اَللّٰهُ

اور بخشش کے سن اور قبول کر دعا میری اللہ

اَكْبَرُ الْاَوْكَبْرِ حَسْبِيَ اَللّٰهُ وَنِعْمَ

بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے کافی ہے مجھ کو اللہ اور اچھا ہے

الْوَكِيلُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ (ابوداؤد) ○

کارساز - اللہ بہت بڑا ہے - اللہ بہت بڑا ہے

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَذُنُوبِي

اے اللہ بخش مجھ کو گناہ منیرے میرے اور گناہ کبیرے میرے

كُلِّهَا اللَّهُمَّ انْعَشْنِي وَأَحْيِنِي وَأَجِبْ رُغْبَتِي

سب۔ اے اللہ بلند کر مرتبہ میرا اور زندہ رکھ مجھ کو (باعزت) اور درست کر

وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ

اور رزق دے مجھ کو اور راہ دکھا مجھ کو نیک عملوں ،

وَالْإِخْلَاقِ إِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا

اور نیک اخلاق کی طرف - تحقیق نہیں راہ دکھاتا نیک عملوں

وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ ○ (حاکم)

کی طرف اور نہیں پھیرتا بڑے عملوں کو کوئی سوا تیرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اے اللہ رحمت بھیج اوپر محمد کے اور اوپر آل

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

محمدؐ کے جیسے رحمت بھیجی تو نے اوپر ابراہیمؑ کے

وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

اور اوپر آل ابراہیمؑ کے تحقیق تو تعریف کیا گیا

مَجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

بزرگ ہے اے اللہ برکت بھیج اوپر محمدؐ کے

وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ


اور اوپر آل محمدؐ کے جیسے برکت بھیجی تو نے

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ

اوپر ابراہیمؑ کے اور اوپر آل ابراہیمؑ کے

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

تحقیق تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔



چہار شنبہ

تو مری رات کو مہتاب سے محروم نہ کر
تھے پیمانے میں ہے ماہ تمام اے ساقی

منزل پانچویں ————— چہار شنبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ سَوَّءَ خَلْقِیْ وَ

سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے برابر کئے اعضا میرے اور

أَحْسَنَ صُوْرَتِیْ وَزَانَ مِیْتِیْ مَا شَانَ

اچھی بنائی صورت میری اور سواری میرے بدن سے وہ چیز جو

مِنْ غَیْرِیْ ۝ حَمْنِ حَمِیْنِ ۝ اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَنْتَ

عیب دار کی غیر میرے سے - اے اللہ جیسے تو نے اچھی بنائی

خَلْقِیْ فَا حَسِنْ خَلْقِیْ وَحَرِّمْ رَوْجِیْ

صورت میری، پس اچھا کر خلق میرا اور حرام کر ذات میری کو

سے بعض کلمے، لولہ، لنگڑتھے، بہرے، کٹی عیبوں والے ہوتے ہیں اللہ کا

شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ عیب ہم میں نہیں ہیں۔

عَلَى النَّارِ ۝ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوفٌ تُحِبُّ

اگ پر اے اللہ تحقیق تو بہت معاف کرنے والا ہے دوست

الْعَفُوفَ عَنِّي ۝ اللَّهُمَّ

رکھتا ہے معاف کرنے کو پس معاف کر مجھ سے گناہ میرے اے اللہ

لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا

نہیں لاتا نیکیوں کو کوئی سوا تیرے اور نہیں

يَذْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا

دور کرتا برائیوں کو کوئی سوا تیرے اور نہیں

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ ۝ أَشْهَدُ

بچنا گما ہوں سے اور نہیں قوت عبادت پر مگر تیری مدد گواہی دیتا ہوں

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

میں اس کی کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ تنہا اور تحقیق محمد

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - وَأَنَّ عِيسَى

بندے اس کے ہیں اور رسول اسکے اور تحقیق عیسیٰ

عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَابْنُ أُمَّتِهِ وَ

بندے اللہ کے ہیں اور رسول اس کے اور بیٹے اسکی لونڈی کے

كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ

اور کلمہ اس کا کہ ڈالا اس کو طرف مریم کے اور رُوح ہیں

مِّنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ ۝

صحیح بخاری

اس کی طرف سے اور تحقیق بہشت حق ہے اور دوزخ حق ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ

پاک ہے اللہ اور پاک یاد کرتا ہوں ساتھ اسکی تعریف کے پاک ہے اللہ

الْعَظِيمِ ۝ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا

عظمت والا۔ پاک ہے اللہ کو بقدر گنتی اس چیز کے

خَلَقَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِثْلَ مَا خَلَقَ وَ

کہ پیدا کی اور پاک ہے اللہ کو بقدر بھرنے اس چیز کے کہ پیدا کی اور

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَسُبْحَانَ

پاک ہے اللہ کو بقدر گنتی ہر چیز کے اور پاک ہے

اللَّهُ مِلَأُ كُلِّ شَيْءٍ وَسُبْحَانَ اللَّهِ

اللہ کو ہر چیز بھر اور پائی ہے اللہ کو بقدر

عَدَدَ مَا أَحْضَرَ كِتَابُهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ

گنتی اس چیز کے کہ جمع کیا اسکی کتاب (دور) نے اور پائی ہے اللہ کو

مِلَأُ مَا أَحْضَرَ كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

بقدر بھرنے اس چیز کے کہ جمع کیا اس کی کتاب نے اور تعریف ہے اللہ کیلئے

عَدَدَ مَا خَلَقَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلَأُ مَا

بقدر گنتی اس چیز کے کہ پیدا کی اور تعریف ہے اللہ کے لئے بقدر بھرنے

خَلَقَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَ

چیز کے کہ پیدا کی اور تعریف ہے اللہ کے لئے بقدر گنتی ہر چیز کے اور

الْحَمْدُ لِلَّهِ مِلَأُ كُلِّ شَيْءٍ وَالْحَمْدُ

تعریف ہے اللہ کے لئے ہر چیز بھر اور تعریف ہے

لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْضَرَ كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ

اللہ کیلئے بقدر گنتی اس چیز کے کہ جمع کیا اسکی کتاب نے اور تعریف ہے

اللَّهُمَّ مَا أَحْضَرْتَنَا فِيهِ، (طبرانی) ○ اللَّهُمَّ

اللہ کے لئے بقدر بھرنے اس چیز کے کہ جمع کیا اسکی کتاب نے۔ اے اللہ

رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ

رب آسمانوں اور زمین کے جاننے والے پوشیدہ

وَالشَّهَادَةِ إِنِّي أَعْتَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ

اور ظاہر کے تحقیق میں ہمد کرنا ہوں طرف تیری اس

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا

زندگانی دنیا میں تحقیق میں گواہی دیتا ہوں اسکی کہ نہیں

إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

معبود مگر تو، ایک ہے تو، نہیں کوئی شریک تیرا،

وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ فَإِنَّكَ

اور تحقیق محمد بندے تیرے ہیں اور رسول تیرے پس تحقیق

إِنْ تَكَلَّمْتَنِي إِلَى نَفْسِي تُقَرِّبُنِي مِنْ

تو اگر سوچے گا مجھ کو میرے نفس کی طرف نزدیک کرے گا مجھ کو

الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِي مِنَ الْخَيْرِ وَإِنِّي

برائی سے اور دور کرے گا مجھ کو بھلائی سے اور تحقیق

إِنِّ اتَّقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَأَجْعَلْ لِي

میں نہیں اعتماد کرتا مگر ساتھ تیرسی رحمت کے ہیں ثابت کر سکتے

عِنْدَكَ عَهْدًا تُوفِّيَنِيهِ يَوْمَ

اپنے پاس عہد کو کہ پورا کرے تو اس کو دن

الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ

قیامت کے تحقیق تو نہیں خلاف کرتا ہے وعدہ کو

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مَبَارَكًا

سب تعریف اللہ کے لئے تعریف بہت پاک بابرکت

فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى

جیسے دوست رکھتا ہے رب ہمارا اور راضی ہوا ہے

اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ

اے اللہ تو ہی سفر میں ساتھی ہے اور

الْخَلِيفَةَ فِي الْاَهْلِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ

تو ہی نائب ہے میرے گھر بار میں اے اللہ تحقیق میں

اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ

پناہ مانگتا ہوں تجھ سے سفر کی مشقت سے اور مراجعت کی

الْمُنْقَلَبِ وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكُوْرِ

برائی سے اور نفع کے بعد نقصان سے

وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَمِنْ سُوْءِ

اور مظلوم کی بد دعا سے ، اور ایل و عیال

الْمَنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ ۝ اَللّٰهُمَّ

اور مال کی بُری حالت سے دیکھنے سے اے اللہ

اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ

تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے عذاب قبر سے اور

اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ

پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کانے دجال کے فتنے سے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْحَيَاةِ وَفِتْنَةِ

اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے زندگی کے فتنے اور موت کے

الْمَاتِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

فتنے سے۔ اے اللہ تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے

الْمَأْثِمِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي

(مصحف بخاری)

گناہ سے اور قرض سے اے اللہ تحقیق میں

ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا

نے ظلم کیا اپنی جان پر بہت ظلم اور نہیں

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي

بخشتا گناہوں کو کوئی سوائے تیرے پس بخش

مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ

ابنی ہی جناب سے بخشش مجھ کو اور رحم کر مجھ پر بیشک تو ہی

أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ اللَّهُمَّ

(مصحف بخاری)

بخشتے والا مہربان ہے اے اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ تَوْفِيقَ أَهْلِ الْهُدَى

تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے توفیق راہ پانے والوں کی

وَأَعْمَالَ أَهْلِ الْيَقِينِ وَمُنَاصِحَةَ

اور اعمال یقین والوں کے اور خیر خواہی توبہ کرنے

أَهْلِ الثَّوْبَةِ وَعَزْمِ أَهْلِ الصَّبْرِ وَ

والوں کی اور ہمت صبر والوں کی اور

جِدِّ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَطَلَبِ أَهْلِ الرَّغْبَةِ

کوشش ڈر والوں کی اور جستجو رغبت والوں کی

وَتَعَبْدِ أَهْلِ الْوَرَعِ وَعِرْفَانِ أَهْلِ

اور عبادت پر مہینگاروں کی اور معرفت علم

الْعِلْمِ حَتَّىٰ أَلْقَاكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

والوں کی یہاں تک کہ طوں میں تجھ سے اے اللہ تحقیق میں مانگتا

مُخَافَةً تَحْجِرُنِي عَنْ مَعَاصِيكَ

ہوں تجھ سے وہ ڈر کہ باز رکھے مجھ کو تیری نافرمانیوں سے

حَتَّىٰ أَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا أَسْتَحِقُّ

یہاں تک کہ تیری اطاعت میں وہ کام کروں کہ جس سے تیری

بہ رضاک و حَتَّىٰ أَنَا صِيحَكَ بِالتَّوْبَةِ

ضمانت کی گامتی ہو جاؤں اور یہاں تک کہ تیری طرف خالص توبہ کروں تجھ

خَوْفًا مِنْكَ وَحَتَّىٰ أَخْلَصَ لَكَ النَّصِيحَةَ

سے ڈر کر اور یہاں تک کہ خالص خیر خواہی کروں تیری

حَيَاءً مِنْكَ وَحَتَّىٰ أَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ

تجھ سے شرمنا کر اور یہاں تک کہ تجھ ہی پر بھروسہ کروں

فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَحُسْنِ ظَنِّ بِكَ

سب کاموں میں اور نیک گمان کروں تیرے ساتھ

سُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي

پاک ہے تو اے پیدا کرنے والے نور کے ۔ اے اللہ تحقیق میں

أَعُوذُ بِكَ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَىٰ

پناہ مانگتا ہوں تیری ایسے لالچ سے جو پہنچا دے مجھ کو

طَبِعٌ ۝ اَعُوذُ بِكَ بِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ ^{بیعتی}

(دل پر) جہر لگنے تک - میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ ذات اللہ بزرگ

النَّافِعِ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ لَا يُجَاوِزُ

ہمیشہ نفع دینے والی کے، اللہ کے پورے کلموں کیساتھ کہ نہیں تجاوز کر

هُنَّ بَرٌّ وَلَا فَا جِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ

سکتا ان سے کوئی نیک اور نہ بد اس کی برائی سے جو اس نے پیدا کی او

ذَرَّ أَوْ بَرًّا وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ

پھیلائی اور بنائی اور اس چیز کی برائی سے جو اترتی ہے ،

السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ فِيهَا وَمِنْ

آسمان سے اور اس چیز کی برائی سے جو پڑھتی ہے آسمان میں اور اس

شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ

چیز کی برائی سے جو پیدا کی زمین میں اور اس چیز کی برائی سے

مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتْنِ اللَّيْلِ

جو نکلتی ہے زمین سے اور رات اور دن کے فتنوں

وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا

کی برائی سے اور رات کے ہر آنے والے (چور وغیرہ) کی برائی سے مگر جو آنوالا

يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ ۝ اللَّهُمَّ

بھلائی کے ساتھ آئے یا رحمن (مجھ پر رحم کر) اے اللہ

فَارِجَ الْهَمِّ كَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيبَ

غم دور کرنے والے رنج و فکر ہٹانے والے، بے قراروں کی

دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ رَحْمَنَ الدُّنْيَا

دعا قبول کرنے والے رحمن دنیا

وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا أَنْتَ تَرْحَمُنِي

اور آخرت کے اہل رحیم دونوں جہانوں کے، تھی میرے حال پر رحم کرتا ہے

فَارْحَمْنِي بِرَحْمَةٍ تُغْنِينِي بِهَا عَنْ

پس ایسی مہربانی کر کہ بے پردہا کر دے مجھ کو ساتھ اس کے

رَحْمَةٍ مِّنْ سِوَاكَ ۝ لَيْلِكَ اللَّهُمَّ

اپنے سوا سب کی مہربانی سے میں حاضر ہوں اے اللہ

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي

میں حاضر ہوں اور مستعد ہوں تیری طاعت پر اور سب بھلائیوں میں

يَدَيْكَ وَمِنْكَ - اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ

ہی دونوں ہاتھوں میں ہیں اور تجھ سے ہی سنبھلتی ہیں اے اللہ میں نے جو بات

مِنْ قَوْلٍ أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلْفٍ

بھی کہی یا کوئی قسم کھائی

أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ فَهَشِيئَتُكَ

یا کوئی نذر مانی پس ارادہ تیرا

بَيْنَ يَدَيْهِ مَا شِئْتُ كَانَ وَمَا لَمْ

آگے اس کے ہے جو چاہا تو نے وہی ہوا اور جو نہ چاہا

تَسْأَلُكَ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

تو نے نہ ہوگا اور نہیں ہے پھرنا گناہ سے اور نہ طاقت

إِلَّا بِكَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

نیکی پر سوائے تیری مدد سے تحقیق تو ہر چیز پر قادر ہے۔

اللَّهُمَّ مَا صَلَّيْتُ مِنْ صَلَاةٍ فَعَلَّ

اے اللہ میں نے جو بھی رحمت کی دعا کی پس اس کے لئے ہے

مَنْ صَلَّيْتُ وَمَا لَعَنْتُ مِنْ لَعْنَةٍ

جس پر تو نے رحمت کی اور جو بھی لعنت کی میں نے

فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَ إِنَّكَ أَنْتَ وَوَلِيٌّ فِي

پس اس پر ہے جس پر تو نے لعنت کی تحقیق تو ہی میرا دوست ہے

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط تَوْفَنِي مُسْلِمًا وَ

دنیا میں اور آخرت میں مار مجھ کو مسلمان اور

الْحَقُّنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ اللَّهُمَّ فَاطِرَ

ملا دے مجھ کو ساتھ نیکوں کے اے اللہ پیدا کرنے والے

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ

آسمانوں اور زمین کے جاننے والے پوشیدہ

وَالشَّهَادَةِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اور ظاہر کے اے صاحب بزرگی اور بخشش کے

فَإِنِّي أَعْبُدُكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ

پس تحقیق میں عہد کرتا ہوں تیری طرف اس زندگانی

الدُّنْيَا وَأَشْهَدُكَ وَكَفَى بِكَ

دنیا میں اور گواہ کرنا ہوں تجھ کو اور کافی ہے تو اس

شَهِيدًا إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ

پر گواہ - کہ تحقیق میں گواہی دیتا ہوں اسکی کہ نہیں معبود

إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

مگر تو تنہا ہے تو نہیں کوئی شریک تیرا ہے ہی لئے

لَكَ الْمُلْكُ وَالْحَمْدُ وَأَنْتَ عَلَى

ہے بادشاہی اور تیرے ہی لئے سب تعریف اور تو ہر چیز

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

پر قادر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں اسکی کہ تحقیق محمدؐ

عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَشْهَدُ أَنَّ

بندے تیرے ہیں اور رسول تیرے اور میں گواہی دیتا ہوں اسکی

وَعْدَكَ حَقٌّ ۙ وَلِقَاءَكَ حَقٌّ ۙ وَالسَّاعَةَ

کہ وعدہ تیرا حق ہے اور دیکھنا تجھ کو (آخرت میں) حق ہے اور قیامت

آئیۃ ۹، لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ وَأَنْتَ تَبْعَتْ

آنے والی ہے نہیں شک اس میں اور تحقیق تو اٹھائے گا ان کو

مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَنْتَ إِنْ تَكَلَّمِي

کہ قبروں میں ہیں اور تحقیق تو اگر سوئے گا مجھ کو

إِلَى نَفْسِي تَكَلَّمِي إِلَى ضَعْفٍ ۙ وَ

طرف میرے نفس کے، تو سوئے گا مجھ کو طرف ناتوانی اور

عَوْرَةً ۙ وَذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ وَأَنْيُ لَا

ننگ اور قصداً گناہ کے اور چوک کے اور تحقیق میں نہیں

أَتَقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي

اعتماد کرتا ہوں مگر ساتھ تیری رحمت کے پس بخش مجھ کو میرے گناہ

۹، كُلِّهَا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا

سب تحقیق نہیں بخشتا گناہوں کو کوئی بسوا

أَنْتَ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ

ترے اور توبہ قبول کر میری تحقیق تو توبہ قبول کرنے والا

الرَّحِيمِ ^{دو طرفی} الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَالَ نَا

مہربان ہے سب تعریف واسطے اللہ کے ہے جس نے معاف

يَوْمَنَا هَذَا وَلَمْ يَهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا

کئے گناہ ہمارے اس دن کے اور نہ ہلاک کیا ہم کو سبب ہمارے گناہوں کے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَنَا هَذَا الْيَوْمَ

سب تعریف واسطے اللہ کے لئے ہے جس نے بخشا ہم کو یہ دن

وَأَقَالَ نَافِيَهُ عَشْرَاتِنَا وَلَمْ يَعْذِبْنَا بِالنَّارِ

اور درگزر کیں اس میں ہماری لغزشیں اور نہ عذاب کیا ہم کو ساتھ آگ کے

اللَّهُمَّ أَنْتَ أَحَقُّ مِنْ ذِكْرٍ وَأَحَقُّ

لئے اللہ تو لائق تر ہے اس سے کہ یاد کیا جائے اور تو لائق تر ہے

مَنْ عُبِدَ وَأَنْصَرُ مَنْ ابْتُغِيَ وَ

اس سے کہ عبادت کیا جائے اور بڑا مددگار ہے اس سے کہ

أَرَأَيْتُ مَنْ مَلَكَ وَأَجُودٌ مَنْ سُئِلَ وَ

دھونڈا جائے اور بڑا مہربان ہے جو مالک ہے اور بڑا سخی ہے اس سے جو مانگا جائے

أَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى أَنْتَ الْمَلِكُ لَا

اور بڑا فراخی والا ہے اس سے جو عطا کرے، تو بادشاہ ہے نہیں

شَرِيكَ لَكَ وَالْفَرْدُ لَا يَدَّ لَكَ كُلُّ

کوئی شریک تیرا اور تو ایک ہے نہیں کوئی، ہمسرتیرا۔ ہر

شَيْءٌ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَكَ لَنْ تَطَاعَ

چیز ہلاک ہونے والی ہے سوا ذات تیری کے، ہر گز عبادت نہیں کیا جاتا

إِلَّا بِأَذْنِكَ وَلَنْ تُعْصَى إِلَّا بِعِلْمِكَ

تو مگر ساتھ اپنے حکم کے اور ہر گز نہیں نافرمانی کیا جاتا ہے تو مگر ساتھ اپنے علم کے

تَطَاعُ فَتَشْكُرُ وَتَعْصَى فَتَغْفِرُ أَقْرَبُ

طاعت کیا جاتا ہے تو جزا دیتا ہے اور نافرمانی کیا جاتا ہے تو معاف کر دیتا

شَهِيدٌ وَأَدْنَى حَفِيظٌ حُلَّتْ

سے۔ قریب تر ہے ہر جان سے اور نزدیک تر ہے ہر نگہبان سے، حامل ہوا

دُونَ النَّفُوسِ وَأَخَذَتْ بِالنَّوَاصِي

تو قریب جانوں کے اور پھڑے تو نے بال پیشانیوں کے

وَكَتَبْتَ الْأَثَارَ وَنَسَخْتَ الْأَجَالَ وَ

اور لکھ دیئے تو نے سب نشان اور لکھیں تو نے عمریں اور

الْقُلُوبِ لَكَ مُفْضِيَةٌ وَالسِّرُّعِنْدَكَ

دل تیرے لئے فراخ ہیں اور بھید تیرے نزدیک

عَلَانِيَةٌ الْحَلَالُ مَا أَحْلَلْتَ وَالْحَرَامُ

کھلے ہیں، حلال وہی ہے جو تو نے حلال کیا اور حرام وہی ہے

مَا حَرَّمْتَ وَالِدَيْنِ مَا شَرَعْتَ وَالْأَمْرُ

جو تو نے حرام کیا اور دین سچا وہ ہے جو تو نے مقرر کیا اور حکم وہی ہے

مَا قَضَيْتَ وَالْخَلْقُ خَلْقُكَ وَالْعَبْدُ

جو تو کو رکھ چکا اور مخلوق پیدائش تیری ہے اور سب بندے

عَبْدُكَ وَأَنْتَ اللَّهُ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ ○

بندے تیرے نہیں اور تو ہے اللہ بہت مہربان بخشنے والا۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ

اے رب میرے بخش گناہ میرے اور قبول کر تو بزمیری۔ تحقیق تو ہی تو ہی

التَّوَّابُ الْغَفُورُ ۝ رَضِيْتُ بِاللَّهِ

قبول کرنے والا بخشنے والا ہے۔ راضی ہوا میں اللہ سے از روئے

رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

رب ہونے کے اور اسلام سے از روئے دین ہونے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے

وَبِالْقُرْآنِ حَكَمًا وَآمَامًا ۝ اللَّهُ

از روئے نبی ہو نیچے اور قرآن سے از روئے حاکم اور امام ہونے کے۔ اللہ

أَكْبَرُ اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعًا

بہت بڑا ہے۔ اللہ غالب تر ہے اپنی سب مخلوق سے

اللَّهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ أَعُوذُ

اللہ غالب تر ہے اس چیز سے جس سے میں ڈرتا ہوں اور خوف کھاتا ہوں میں پناہ

بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمُهَيَّبُ

مہکتا ہوں اللہ کی کہ نہیں کوئی معبود و معرودہ۔ تقاضے والا ہے

السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بَازِنَهُ

آسمان کو اس سے کہ گزرتے ہو زمین پر مگر اس کے حکم سے

مِنْ شَرِّ عِبْدِكَ فَلَانٍ وَجَنُودِهِ وَ

تیرے فلاں بندے کی برائی سے اور اس کے لشکروں کی برائی سے

اتَّبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنَّ وَ

اور اس کے تابعوں اور گروہوں کی برائی سے جن سے ہوں اور

الْإِنْسِ اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَارًا مَنْ

انسان سے ہوں۔ اے اللہ ہو میرے واسطے پشت پناہ ان کی

شَرِّهِمْ جَلَّ ثَنَاءُكَ وَعَزَّ جَارُكَ

برائی سے بڑی ہے تعریف تیری اور غالب ہے پناہ پھرنے والا

لے انبیاء اہل اللہ اور حق گو لوگوں کے کئی مخالف بھی ہوتے ہیں جو ناطق و شمشیٰ کہتے اور ان کے درپے آزاد بہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے لقموں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی طرف سے بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ اس دعا میں بندے سے عداوت ایسا ہی بندہ ہے۔ جو ناطق و شمشیٰ پر کمر باندھ کر کسی نیک آدمی کو دکھ پہنچائے۔ اور اپنے لادشکر سے اسے ڈرائے۔ خداوند اپنے نیک بندوں کو ظالموں کے جوہر دستم سے محفوظ رکھے!

وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ۝ طبرانی ^{طبرانی} اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوذُ بِكَ

تیرا اور نہیں کوئی معبود سوا تیرے اے اللہ تحقیق میں پناہ پکڑتا

بِكَ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَحَدٌ مِنْهُمْ اَوْ

ہوں ساتھ تیرے اس سے کہ زیادتی کرے ہم پر کوئی یا

اَنْ يُّظَلِّمَ ۝ ^{حصین} اَللّٰهُمَّ اِنَّ جِبْرِيْلَ وَ

یہ کہ ظلم کرے۔ اے اللہ معبود جبرائیل کے اور

مِيكَائِيْلَ وَ اِسْرَافِيْلَ وَ اِلٰهَ اِبْرَٰهِيْمَ

میکائیل اور امرافیل کے اور معبود ابراہیم

وَ اِسْمَاعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ عَافِيًّا وَ لَا

اور اسماعیل اور اسحاق کے عافیت دے مجھ کو اور نہ

تَسْلُطَنَّ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ عَلَيَّ

غالب کر کسی کو اپنی مخلوق میں سے مجھ پر

بِشَيْءٍ لَا طَاقَةَ لِيْ بِهٖ ۝ ^{حصین} بِسْمِ

ساتھ اس چیز کے کہ نہیں طاقت ہے مجھ کو اس کی۔ ہیں اللہ کا

نزل الابرار

اللَّهُ عَلَى نَفْسِي وَمَكَرِي وَدِينِي ①

نام لیتا ہوں اپنی جان اور مال اور دین پر

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ إِلَى نَفْسِي وَ

سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے پھیری میری طرف جان میری

لَمُؤَيَّتِهَا فِي مَنَامِهَا - الْحَمْدُ لِلَّهِ

اور نہ مارا اس کو اس کی نیند میں سب تعریف اللہ کیلئے ہے

الَّذِي يُدْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

جس نے مقام رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اس

أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكْتُمَا

سے کہ ٹل جائیں اپنی جگہ سے اور اگر ٹل جائیں، نہیں ٹھانے گا ان کو

مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا

کوئی اس کے بعد تحقیق وہ بردبار

غَفُورًا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُدْسِكُ

بخشنے والا ہے - سب تعریف اللہ کیلئے ہے جس نے تمام

السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

رکھا ہے آسمان کو اس سے کہ گر پڑے زمین پر مگر اس کے حکم

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

سے۔ تحقیق اللہ ساتھ لوگوں کے البتہ شفقت کرتے والا نہرہا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَ

سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو زندہ کرتا ہے مردوں کو اور

هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

رَبَّنَا الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ

پروردگار ہمارا وہ ہے جو آسمان میں پاک ہے نام تیرا

أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا

حکم تیرا جاری ہے آسمان میں اور زمین میں۔ جس طرح رحمت تیری

رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ

آسمان میں ہے پس کہ اسی طرح رحمت اپنی

فِي الْأَرْضِ وَأَغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا

زمین میں اور بخشش ہمارے لئے گناہ ہمارے جان کر کئے ہوئے

أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ فَأَنْزِلْ شِفَاءً

اور چوک کر کئے ہوئے تو رب ہے پاک لوگوں کا۔ پس اتار اپنی شفا خون

مِنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ

میں سے شفاء اور اپنی رحمتوں میں سے رحمت

عَلَىٰ هَذَا الْوَجْعِ ۝ اَعُوذُ بِاللَّهِ وَ

اس درد پیر پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی

قُدْرَتِهِمْ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ ۝

اور اسکی قدرت کی اس چیز کی برائی سے کہ پاتا ہوں میں اور ڈرتا ہوں آئندہ کو۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ

اے اللہ تحقیق ہم مانگتے ہیں تجھ سے وہ اعمال کہ موجب

وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةِ مِنْ

ہوں تیری رحمت کے اور لازم کریں تیری بخشش کو اور مانگتے ہیں سلامتی

كُلِّ اِثْمٌ وَالْغَيْبَةُ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالْفَوْزُ

ہر گناہ سے اور غنیمت ہر نیکی سے اور مراد پانی

بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ ۝ اَللّٰهُمَّ

بہشت سے اور نجات آگ سے اے اللہ

لَا تَدْعُ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَاَهْمًا

نہ چھوڑ ہمارا کوئی گناہ جس کو تو نہ بخشے اور نہ کوئی ایسا غم

اِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا دَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا

جس کو تو دور نہ کرے اور نہ کوئی قرض جس کو تو ادا نہ کرے اور نہ

حَاجَةً مِّنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

کوئی حاجت دنیا اور آخرت کی حاجتوں سے

اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝ اَللّٰهُمَّ

جس کو تو روا نہ کرے اے بہت رحم کرنے والے رحم کرنے والوں میں۔ اے اللہ

ضَعُ فِيْ اَرْضِنَا بَرَكَتَهَا وَزِيْنَتَهَا

رکھ ہماری زمین میں برکت اس کی اور زینت اس کی

وَسَكْنَهَا ۞ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ

اور خاطر جمعی اس کی لئے اللہ تعالیٰ میں مانگتا ہوں تجھ سے

فَجَاءَةِ الْخَيْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِجَاءَةِ

اچانک بھلائی سے اور پناہ پچھتا ہوں تیری اچانک آنے والی

الشَّرِّ ۞ اللَّهُمَّ هَذَا أِقْبَالُ لِيْلِكَ وَ

برائی سے اے اللہ یہ تیری ذات کے آنے اور

إِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاعْفِرْ لِي

دن کے جانے کا وقت ہے اور تیرے پکارتے والوں کی آوازیں ہیں میرے گناہوں کو معاف فرما

اللَّهُمَّ أَصْبَحْتُ أَشْهَدُ لَكَ بِمَا شَهِدْتُ

اے اللہ میں نے صبح کی، میں گواہی دیتا ہوں تجھے لئے ساتھ اس کے

لِنَفْسِكَ وَشَهِدْتُ بِهٖ مَلِكُكَ

کہ گواہی دی تو نے اپنی ذات کیلئے اور گواہی دی ساتھ لے کے تیرے فرشتوں

وَجَمِيعُ خَلْقِكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا

نے اور تیری تمام مخلوق نے، کہ تو ہی اللہ ہے نہیں

إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ

کوئی معبود مگر تو ، قائم کرنے والا انصاف کو، نہیں کوئی

إِلَّا أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أَكْتُبُ

معبود مگر تو غالب حکمت والا، لکھ لے

شَهَادَتِي بَعْدَ شَهَادَةِ مَلَائِكَتِكَ وَ

گواہی میری اپنے فرشتوں اور اہل علم کی گواہی

أُولِي الْعِلْمِ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ

کے بعد۔ اے اللہ تو سلام ہے اور

مِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ السَّلَامُ أَسْأَلُكَ

تیری طرف سے سلامتی ہے اور تیری طرف سلامتی ہے مانگتا ہوں

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَنْ تُسْتَجِيبَ

میں تجھ سے اے بزرگی اور عظمت والے یہ کہ قبول کر

لِنَادَعُوتَنَا وَأَنْ تُعْطِيَئَنَا رَغْبَتَنَا وَ

ہماری دعاؤں کو اور پورا کر ہماری تمناؤں کو اور

أَنْ تَغْنِينَا عَمَّنْ أَعْنَيْتَهُ عَنَّا مِنْ

یہ کہ بے نیاز کر دے ہم کو اس سے کہ بے نیاز کیا ہے تو نے اسکو ہم

خَلْقِكَ. اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي

سے اپنی مخلوق سے۔ اے اللہ سنوار دے میرے دین کو کہ وہ

هُوَ عَصَبَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ

بچاؤ ہے میرے کام کا، اور سنوار دے میری دنیا کو

الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي

جس میں میری زندگانی ہے اور درست کر میرے لئے آخرت

الَّتِي فِيهَا مَنَقَلِي ۝ (نزل اللہ بار بار) اللَّهُمَّ آتِنَا

میری کو جہاں میں نے لوٹ کر جانا ہے اے اللہ دے ہم کو

فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ

دنیا میں بھلائی اور آخرت میں

حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

بھلائی اور بچاؤ ہم کو آگ کے عذاب سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ

اے اللہ تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے معافی اور سلامتی

رَبِّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ وَ

اے رب میرے تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے سلامتی اور

المُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

معافی دنیا میں اور آخرت میں

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَ

اے اللہ کر میرے دل میں روشنی اور

اجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ

کر میری سماعت میں روشنی اور کر میری

فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ أَمَامِي

بینائی میں روشنی اور کر میرے آگے

نُورًا وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ

روشنی اور کر میرے پیچھے روشنی اور کر

سن حسین

○ مِنْ تَحْتِي نُورًا وَأَعْظَمُ لِي نُورًا ○

میرے نیچے روشنی اور بڑی کر میرے لئے روشنی

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَ

پاک ہے صاحب غلبے کا اور

○ الْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعُظْمَةِ ○

صاحب بادشاہت کا اور صاحب بڑائی اور بزرگی کا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْهَا لَآ

اے اللہ تحقیق میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف گناہوں سے نہیں

أَرْجِعُ إِلَيْهَا أَبَدًا ○ اللَّهُمَّ مَغْفِرَتِكَ

لوٹوں گا ان کی طرف کبھی اے اللہ تیری بخشش

أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتِكَ أَرْجِي

بہت وسیع ہے میرے گناہوں سے اور تیری رحمت بہت امید

عِنْدِي مِنْ عَمَلِي ○ بِسْمِ

کی گنجی ہے میرے نزدیک میرے عمل سے

ساقہ نام

اللَّهُ الْكَبِيرُ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ

اللہ بڑے کے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ عظیم کی

مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَّعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ

جوش مارنے والی رگ کی برائی سے اور آگ کی گرمی

حَرِّ النَّارِ ۝ أَعُوذُ بِرِكَلَتِ

کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے

اللَّهُ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ

پورے کلموں کی ہر

وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ

شیطان سے اور زہریلے جانور سے اور ہر نظر لگانے والی

لَأَمَّةٍ ۝ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ

آنکھ سے کافی ہے ہم کو اللہ اور اچھا ہے

الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۝

کارساز اللہ پر بھروسہ کیا ہم نے ۔

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ

پاک ہے بادشاہ (شُرک سے) نہایت پاک ، رب

الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوحِ جَلَلَتْ

فرشتوں کا اور رُوح کا ، روشن ہیں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْعِزَّةِ

آسمان اور زمین اس کی عزت

وَالْجَبَرُوتِ ^{ابن سنی} اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ

اور جبروت سے - پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سننے والے

الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

جاننے والے کی شیطان مردود سے

اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ

پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سننے والے جاننے والے کی

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اَعُوذُ

شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں

بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ

میں اللہ سننے والے جاننے والے کی شیطان

الرَّجِيمِ هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا

مردود سے وہ اللہ ہے جس کے سوا

إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ

کوئی عبادت کے لائق نہیں جاننے والا پوشیدہ اور

الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

کھلی چیزوں کا وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ

بادشاہ ہے، پاک ذات سلامتی بخشنے والا

یہ قرآن مجید سورہ حشر کی آخری تین آیتیں ہیں۔

المؤمن المہین العزیز

امن دینے والا تمہارا غالب

الجبار المتکبر سبحان

دباؤ والا عظمت والا ہے پاک ہے

اللہ عما یشرکون ۝ هو اللہ

اللہ اس چیز سے جو شریک بتاتے ہیں وہ اللہ ہے

الخالق الباری المصور له

پیدا کرنے والا بنانے والا صورت بخشنے والا اس کے

الاسماء الحسنى ۝ یسیح له ما

اچھے اچھے نام ہیں اسی کی پاکی بیان کرتی ہے

فی السموات والأرض وهو

ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ

العزیز الحکیم

غالب حکمت والا ہے

(ترجمہ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

لے اللہ رحمت بھیج اوپر محمدؐ کے اور اوپر آل

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

محمدؐ کے جیسے رحمت بھیجی تو نے اوپر ابراہیمؑ کے

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ

اور اوپر آل ابراہیمؑ کے تحقیق تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

لے اللہ برکت بھیج اوپر محمدؐ کے اور اوپر

آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى

آل محمدؐ کے جیسے برکت بھیجی تو نے اوپر

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ


ابراہیمؑ کے اور اوپر آل ابراہیمؑ کے تحقیق تو

حَمِيدٌ مُّجِيدٌ

بخاری شریف

کتاب سنن

تعریف کیا گیا بزرگ ہے



پنجشنبہ

اسی دریا سے اٹتی ہے وہ موج تند جولاں بھی
نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا

منزل چھٹی — پنجشنبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ

اے اللہ تو سلام ہے اور تیری ہی طرف سے (ہماری) سلامتی

تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(صحیح مسلم)

ہے تو بابرکت ہے اے صاحب بزرگی اور بخشش کے۔

يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا

اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے ، اے

ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا صَرِيحَ

صاحب بزرگی اور بخشش کے اے بیچنے والوں کی

الْمُسْتَضْرِحِينَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ

زیادہ کو بیچنے والے اے زیاد کرنے والوں کے زیاد رکھ

يَا كَاشِفَ السُّوءِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا

اے دور کرنے والے تکلیف کے اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے

مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ يَا إِلَهَ

قبول کرنے والے دعا لاچاروں کی . اے سب جہانوں

الْعَالَمِينَ بِكَ أَنْزِلْ حَاجَتِي وَأَنْتَ

کے معبود میں تیرے حضور اپنی حاجت لایا ہوں اور تو

أَعْلَمُ بِهَا فَأَقْضِهَا ۝ اللَّهُمَّ فَاطِرَ

خوب جانتا ہے پس پوری کر دے حاجت اے اللہ پیدا کرنے والے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَ

آسمانوں اور زمین کے جاننے والے پوشیدہ اور

الشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ

ظاہر کے پالنے والے ہر چیز کے اور مالک اس کے

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ

گو ایہ دیتا ہوں میں اسکی کہ نہیں کوئی معبود سوا تیرے پناہ مانگتا ہوں

مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَ

ساتھ تیرے اپنے شر سے اور شیطان کی برائی سے اور اسکے

شَرِّكَهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا

شرک (میں ڈالتے) سے اور اس سے کہ اپنی جان پر برائی کماؤں

أَوْ أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ ○ الْحَمْدُ لِلَّهِ

یا کھینچوں برائی کو طرف کسی مسلمان کے سب تعریف اللہ کے لئے ہے

الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَ

جس نے کھلایا، ہمیں اور پلایا، ہمیں اور کافی ہوا اور

أَوَانَا فَكِرْمَسَّنْ لَّا كَافِي لَهٗ وَلَا

جگہ دی ہم کو پس کتنے ایسے لوگ، ہیں جن کو کوئی کفایت کر نہ لایا ہیں اور

مُؤَيِّ ○ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَا

زندگی جگہ دینے والا۔ سب تعریف اللہ کیلئے ہے جس نے زندہ کیا میری جان کو

نَفْسِي بَعْدَ مَا أَمَاتَهَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ○

پہنچے اسکے مارنے کے (یعنی بنند سے بیدار کیا) اور اسی کی طرف سے جی اٹھنا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي

سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے عافیت دی میرے بدن میں

وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي وَأَذِنَ لِي

اور لوٹائی مجھ پر جان میری (بعد نیند کے) اور اجازت دی مجھے

بِذِكْرِهِ ○ (ترمذی) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

اپنی یاد کی سب تعریف اللہ کے لئے ہے مجھے

خَلَقَ السُّوْمَ وَالْيَقْظَةَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

پیدا کیا نیند اور بیداری کو۔ سب تعریف اللہ کیلئے ہے جس نے

بَعَثَنِي سَالِمًا سَوِيًّا أَشْهَدُ أَنَّ

اٹھایا مجھ کو (نیند سے) صحیح سالم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ

اللَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَةَ وَهُوَ عَلَى

مردوں کو زندہ کریگا اور وہ ہر چیز پر

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ (ادکار نووی) اللَّهُمَّ

نادر ہے اے اللہ

اجْعَلْنِي اَعْظَمُ شُكْرِكَ وَاكْثَرُ

کر مجھ کو کہ بہت کروں شکر تیرا اور کثرت سے کروں

ذِكْرِكَ وَاَتَّبِعْ نُصْحَكَ وَاَحْفَظْ

ذکر تیرا، اور پیروی کروں تیری نصیحت کی اور یاد رکھوں

وَصِيَّتِكَ ۝ اللّٰهُمَّ اِنِي اَسْئَلُكَ

تیری وصیت کو اے اللہ تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ

رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِيْ

سے رحمت، تیری جناب سے کہ ہدایت کرے تو اس سے میرے دل

وَتَجْمَعُ بِهَا اَمْرِيْ وَتَلْمِزُ بِهَا شَعْتِيْ

کو اور جمع کرے تو اس سے میرے کام کو اور اکٹھا کرے تو اس کی بری پریشانی

وَتُسَلِّحُ بِهَا غَايِبِيْ وَتَرْفَعُ بِهَا

کو اور صلاحیت کرے تو اس سے میرے پیچھے اور بلند کرے تو اس سے

شَاهِدِيْ وَتُزَكِّيْ بِهَا عَمَلِيْ وَتُلْهِمْنِيْ

میرے حاضر کو، اور پاک کرے تو اس سے میرے عمل کو اور سوچاؤ سے تو

بِهَارُسْتَدِي وَتَرُدُّبِهَا الْفَتَىٰ وَ

اس سے میری ہدایت اور پھیرے تو اس سے میری الفت اور

تَعْمِيْنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ ۝ اللَّهُمَّ

بچائے تو مجھ کو اس سے ہر برائی سے ، اے اللہ

أَعْطِنِي إِيْمَانًا وَيَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهُ

عطا کر مجھ کو ایسا ایمان اور یقین کہ بعد اس کے

كُفْرٌ ۝ وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ

کفر نہ ہو اور عطا کر رحمت کہ حاصل کروں میں اس سے بزرگی تیری

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

بخشش کی دنیا اور آخرت میں ، اے اللہ تحقیق میں مانگتا ہوں

الْفَوْزَ فِي الْقَضَاءِ وَنَزْلَ الشَّهَادَةِ وَ

تجھ سے مراد پانا حکم میں اور بہمانی شہیدوں کی اور

عَيْشَ السُّعْدَاءِ وَمُرَافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ

زندگانی نیکیوں کی اور رفاقت پیغمبروں کی

وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ - اللَّهُمَّ ارِنِي

اور مددگاری دشمنوں پر۔ اے اللہ تحقیق میں

أَنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصَرَ رَأْيِي

پیش کرتا ہوں تیرے آگے حاجت اپنی اگرچہ ناقص ہے عقل میری

وَضَعُفَ عَمَلِي افْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ

اور کمزور ہے عمل میرا تو بھی محتاج ہوں میں تیری رحمت کا

فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ يَا

پس مانگتا ہوں میں تجھ سے اے پورا کرنے والے مرادوں کے اور اے

شَافِي الصُّدُورِ كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ

شفا دینے والے سینوں کے۔ جیسے نجات دیتا ہے تو

الْبُحُورِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ

دریاؤں میں، نجات دے مجھے بھی دوزخ کے عذاب سے اور ہلاکت

سے قیامت کو دوزخی عذاب سے بچا کر جہنم میں دعا مانگیں گے کہ کاش ہمیں

موت آجاتی یہ بے ہلاکت کی دعا۔ اس ہلاکت کی دعا سے نجات چاہی ہے۔

یعنی دوزخ میں جائیں اور نہ ہلاکت کی دعا مانگیں۔

السَّعِيرُ وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ وَمِنْ

کسٹے والی دعا سے ، اور

فِتْنَةِ الْقُبُورِ اللَّهُمَّ مَا قَصَّرَعْنَهُ

قبروں کے نکتے سے . اے اللہ وہ بات جس سے قاصر رہی

رَأَيْتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ نَبِيِّتِي وَمَسْأَلَتِي

مغل میری اور نہ پہنچی اس کو نیت میری اور میں نبی کو میرا سوال

مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ

نہ پہنچا ، جس کا تو نے اپنی خلقت میں کسی سے وعدہ کیا ہے

أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ

یا وہ نیکی کہ تو اسے دینے والا ہے کسی کو اپنے

عِبَادِكَ فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَ

بندوں میں سے پس میں تیری طرف اس (نیکی) کی رغبت کر رہا ہوں۔

أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

اور مانگتا ہوں تجھ سے وہ نیکی ساتھ تیری رحمت کے لئے ربِ تمام جہانوں کے

اللَّهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيدِ وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ

اے اللہ صاحب رستی مضبوط کے اور صاحب کاموں شائستہ کے

أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعْدِ وَالْجَنَّةَ

میں مانگتا ہوں تجھ سے امن دن عذاب کے، اور بہشت

يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ

ہمیشہ رہنے کے دن - ہمراہ مقربوں، حضوری والوں

الرُّكْمِ السُّجُودِ الْوُفِيِّنَ بِالْعَهْدِ

بٹکنے والوں۔ سجدہ کرنے والوں کے جو پورا کرتے ہوئے ہیں عہدوں

إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ

کو، بیشک تو مہربان ہے دوست دار کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مَهْتَدِينَ

اے اللہ کرہم کو راہ دکھانے والے، راہ پانے والے

غَيْرِ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ سَلْمًا

نہ بٹکنے والے، اور نہ گمراہ کرنے والے، صلح

لَا وِلِيَّائِكَ وَحَرْبًا لِأَعْدَائِكَ

کرنے والے تیرے دوستوں سے اور لڑنے والے تیرے دشمنوں

نِحْبُ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَنُعَادِي

سے، دوست رکھتے ہیں ہم تیری محبت کے سبب اسکو جو دوست رکھتا

بَعْدًا أَوْبِكَ مَنْ خَالَفَكَ ۝ اللَّهُمَّ

ہے تجھ کو اور دشمنی کرتے ہیں ہم تیری عداوت کے سبب جو تیری مخالفت کرتا ہے

هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ

اے اللہ یہ میری دعا ہے اور تیرے ذمہ قبول کرنا ہے۔

وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ

اور یہ مسیہی کوشش ہے اور تجھ پر بھروسہ ہے

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَ

اے اللہ کر دے میرے لئے نور میرے دل میں اور

نُورًا فِي قَبْرِي وَنُورًا مِّنْ بَيْنِ

نور میری قبر میں اور نور میرے آگے

يَدَيَّ وَنُورًا مِّنْ خَلْفِي وَنُورًا عَن

سے اور نور میرے پیچھے سے اور نور میرے

يَسْبِيئِي وَنُورًا عَن شِمَالِي وَنُورًا مِّنْ

داہنے سے اور نور میرے بائیں سے اور نور میرے

فَوْقِي وَنُورًا مِّنْ تَحْتِي وَنُورًا فِي

اوپر سے اور نور میرے نیچے سے اور نور میرے

سَمْعِي وَنُورًا فِي بَصْرِي وَنُورًا فِي

کانوں میں اور نور میری آنکھوں میں اور نور میرے

شَعْرِي وَنُورًا فِي بَشْرِي وَنُورًا

بالوں میں اور نور میرے چہرے میں اور نور

فِي لَحْيِي وَنُورًا فِي دَمِي وَنُورًا فِي

میرے گوشت میں اور نور میرے خون میں اور نور میری

عِظَامِي اَللّٰهُمَّ اَعْظِمْ لِيْ نُورًا وَّ

ہڈیوں میں۔ اے اللہ بڑا کر میرے لئے نور کو اور

أَعْطِنِي نُورًا وَأَجْعَلْ لِي نُورًا سُبْحَانَ

دے مجھ کو نور اور کر دے میرے لئے نور، پاک ہے

الَّذِي تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَقَالَ بِهِ سُبْحَانَ

وہ ذات جس نے جاد سپہی عزت کی، اور قائل ہوا اسکا، پاک ہے

الَّذِي لَبَسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ

وہ ذات جس نے پہنا ہے خرافت کو اور بزرگ ہوا ہے ساتھ اسکے

سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ

پاک ہے وہ ذات کہ نہیں لائق تسبیح کی، بولنا

إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ مَنْ أَخْضَعُ كُلَّ شَيْءٍ

مگر اسی کی، پاک ہے وہ ذات جس نے گیر لیا ہے ہر چیز کو

يَعْلَمُهُ سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالطُّوْلِ

اپنے علم میں، پاک ہے صاحب فضل اور بخشش کا

سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ

پاک ہے صاحب فضل اور نعمتوں کا

سُبْحَانَ ذِي الْمَجْدِ وَالْكَرِيمِ سُبْحَانَ

پاک ہے صاحبِ عزت اور بخشش کا، پاک ہے

ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ○ سَمِعَ ^(ترندی)

صاحبِ بزرگی اور اکرام کا سُن لی

سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بِلَاغِهَا

سننے والے نے میری اللہ کی تعریف کرنی اور اقرار کرنا اس کی خوبی

عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبِنَا وَأَفْضَلُ عَلَيْنَا

نعمت کا جو ہم پر ہے، اے رب ہمارے مددگار جو ہمارا اور افضل کر ہم پر

عَايِذًا يَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ ○ لَبَّيْكَ ^{سبح}

میں دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں - حاضر ہوں میں

اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

اے اللہ حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں، نہیں کوئی شریک تیرا،

لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَ

حاضر ہوں میں بیشک سب تعریف اور نعمت تیرے ہی لئے ہے اور

الْمَلِكِ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ

بادشاہت، ہمیں کوئی شریک تیرا، حاضر ہوں میں اے اللہ

وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ

حاضر ہوں میں اور فرمانروا ہوں میں تیرا اور بھلائی تیرے ہاتھوں میں

لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

ہے، حاضر ہوں میں اور رغبت تیری طرف ہے اور عمل تیری طرف چمکتے ہیں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ

اے اللہ تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے رضامندی تیری اور جنت

وَأَسْأَلُكَ الْعَفْوَ بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ

اور مانگتا ہوں تجھ سے معافی ساتھ رحمت تیری کے آگ سے

اللَّهُمَّ مَصْرُوفَ الْقُلُوبِ صَرِيفٌ

اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے پھیر

قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ ۝ الْحَمْدُ

دل ہمارے اپنی طاعت پر۔ سب تعریف

بِاللّٰهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ مَنْ

اللہ کے لئے بے جو کھلاتا ہے اور نہیں کھلایا جاتا، احسان کیا

عَلَيْنَا فَهَذَا أَنَا وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَ

اس نے ہم پر، پس راہ دکھائی ہم کو اور کھلایا ہم کو اور پلایا ہم کو

كُلِّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا - الْحَمْدُ

اور ہر نعمت خوب انعام کی ہم کو - سب تعریف

بِاللّٰهِ غَيْرِ مُؤَدِّعٍ وَلَا مُكَافَاٍ وَلَا

اللہ کے لئے ہے درحالیکہ وہ نعمت نہیں ترک کی گئی ہے اور نہ

مَكْفُورٍ وَلَا مُسْتَفْنٍ عَنْهُ - الْحَمْدُ

بدلہ دی گئی ہے اور نہ ناشکری کی گئی ہے اور نہ بے پروا کی گئی ہے

بِاللّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ وَ

اس سے، سب تعریف اللہ کیلئے ہے جس نے ہم کو کھانے کی چیز کھلایا

سَقَى مِنَ الشَّرَابِ وَكَسَى مِنَ

اور پینے کی چیز پلایا اور پوشاک پہنائی

الْعُرَى وَهَدَىٰ مِنَ الضَّلَالَةِ وَبَصَّرَ

برہنگی سے اور راہ بتائی گمراہی سے اور بینا کیا

مِنَ الْعَمَىٰ وَفَضَّلَ عَلَٰ كَثِيرٍ مِّنْ

اندھے بین سے اور بزرگی دی اوپر بہتوں کے اپنی

خَلَقَ تَفْضِيلًا. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

مخلوق سے بزرگی دینی، سب تعریف اللہ کیلئے ہے جو رب ہے

الْعَالَمِينَ ۝ اللَّهُمَّ اشْبَعْتُ وَ

سب جہانوں کا اے اللہ سیر کیا تو نے اور

أَرُوَيْتَ فَهَمَّئِنَّا وَمَا زَقْتَنَا فَاكْثَرَتْ

سیرا کیا تو نے پس گوارا کر ہمارے کھانے پینے کو اور رزق دیا تو نے

وَأَطْبَبْتَ فَرَدُّنَا ۝ اللَّهُمَّ لَكَ

پس بہت دیا تو نے اور اچھا کیا حال ہمارا پس زیادہ ہے ہم کو نعمتیں اے اللہ

الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِي

سب تعریف تیرے ہی لئے ہے تو نے پہنایا مجھ کو لباس

أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ

مانگتا ہوں تجھ سے بھلائی اس کی اور بھلائی اس چیز کی کہ تمہ بنا یا گیا

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا

ہے اس کے لئے اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کی برائی تمہ سے اور

صُنِعَ لَهُ ۝ اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا

اس چیز کی برائی سے کہ بنا یا گیا ہے اسکے لئے۔ اے اللہ نہ مار ہم کو

بِغَضَبِكَ وَلَا تَهْلِكْنَا بَعْدَ آيِكَ

اپنے غضب سے اور نہ ہلاک کر ہم کو اپنے عذاب سے

وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي

اور عافیت دے ہم کو اس سے پہلے۔ اے اللہ تحقیق میں

لے لباس کی بھلائی یہ ہے کہ خیریت سے بدن پر رہے اور اسکے ذریعہ کوئی تکلیف نہ

پہنچے۔ سٹہ لباس اس غرض کے لئے بنا یا گیا ہے کہ اس سے ستر ڈھکا بنا جائے اور

گرمی سردی سے بچیں، پس اسی غرض کیلئے لباس پہننا چاہیے نہ کہ فخر، تکبر اور غرور

کے لئے کہ یہ گناہ ہے۔ اور ہاں لباس حسب حیثیت پہن سکتے ہیں کہ اس سے

اللہ کے شکر کا اظہار ہوتا ہے سٹہ لباس کی برائی یہ ہے کہ اس سے تکلیف یا

غرر پہننے مثلاً اسے آگ لگ جائے اور جسم جل جائے۔ سٹہ لباس کو فخر غرور

اور دوسروں پر برتری ظاہر کرنے کیلئے بنا یا گیا ہے اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔

أَسْأَلُكَ يَا سُبْحَانَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ

مانگتا ہوں تجھ سے ساتھ نام تیرے کے جو پاک ہے، طیب ہے

الْمُبَارَكِ الْأَحَبِّ إِلَيْكَ الَّذِي إِذَا

برکت والا ہے، بہت پیارا ہے تجھے وہ نام کہ جب اسکے ساتھ

دُعِيتَ بِهِ أَحَبَّتْ وَإِذَا سُئِلَتْ

دعا کی جائے تو قبول کرتا ہے۔ اور جب اس کے ساتھ سوال کیا

بِهِ أُعْطِيَتْ وَإِذَا سُتْرِجِمَتْ بِهَا

جائے تو دیتا ہے اور جب اس کے ساتھ رحمت مانگی جائے

رَحِمَتْ وَإِذَا اسْتَفْرَجَتْ بِهَا

تو رُم کرتا ہے اور جب اس کے ساتھ مشکل کشائی کیلئے عرض کی جائے

فَرَجَّتْ ۝ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ

تو مشکل کشائی کرتا ہے۔ اے اللہ تحقیق تو جانتا ہے

سِرِّي وَعَلَانِيَتِي قَاقِبِلْ مَعْدِرَتِي

میرے چھپے کو اور میرے ظاہر کو پس قبول کر میرے عذر کو

وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سُؤْلِي وَتَعْلَمُ

اور جانتا ہے تو میری حاجت کو پس پورا کر سوال میرا اور جانتا

مَا فِي نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي (طرائی) ○

ہے تو جو میرے دل میں ہے پس بخش دے میرے گناہوں کو

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا

اے اللہ تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے بھلائی اس

الشَّهْرِ وَخَيْرِ الْقَدَرِ وَأَعُوذُ بِكَ

ہینے کی اور بھلائی تقدیر لہی اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے

مِنْ شَرِّهِ (طرائی) ○ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا خَيْرَهُ

اس ہینے کی برائی سے اے اللہ نسیب کر ہم کو اس ہینے کی بھلائی

وَنَصْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَفَتْحَهُ وَنُورَهُ

اور مدد اس کی اور برکت اس کی اور فتح اس کی اور نور اس کا

سے یعنی جو رزق دینا اس ماہ میں مقدس ہے اسکی کشائش اور نیر نمودی مانگتے ہیں۔

سے یعنی اس ہینے میں تیری طرف سے جو برکتیں نصرتیں نصیبیں اور دستگیریاں آئیں ہم

وہ مانگتے ہیں کہ نور ماہ سے مراد وہ ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو۔

وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ

اور پناہ مانگتے ہیں تجھ سے اس مہینے کی برائی سے اور جو برائی اسکے بعد ہو

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَجِيرُكَ مِنَ النَّارِ

اے اللہ تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تیری آگ سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ

اے اللہ تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے جنت

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ

اے اللہ اتارنے والے کتاب کے اور چلانے والے

السَّحَابِ سَرِيعِ الْحِسَابِ وَهَازِمِ

بادل کے جلد لینے والے حساب کے اور شکست دینے

الْأَحْزَابِ - اللَّهُمَّ أَهْزِمْهُمْ وَزَلْزَلْهُمْ

والے مشکروں کفار کے اے اللہ کافروں کو شکست اور انکو ہلا دے

وَأَنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

اور ہمیں ان پر مدد دے

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي

اے اللہ کر مجھ کو

مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا

ان میں سے جو نیکی کریں تو خوش ہوں

وَإِذَا سَاءَ وَاسْتَغْفَرُوا ۗ اللَّهُمَّ

اور جب برائی ہو تو معافی چاہیں اے اللہ

لَا تُهْلِكْنَا فُجَاءَةً ۗ وَلَا تَأْخُذْنَا بَعْتَةً

نہ ہلاک کر ہم کو اچانک اور نہ پھڑ ہم کو ناگہان

وَلَا تُغْفِلْ عَنَّا حَقًّا ۗ وَلَا وَصِيَّةً

اور نہ غافل کر ہم کو کسی کے حق سے اور نہ وصیت سے

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفَا وَالْغَنَاءَ

اے اللہ تحقیق ہم مانگتے ہیں تجھ سے پاک دامنی، بے پردائی

وَالْبُقَا وَالْهُدَىٰ وَحُسْنَ عَاقِبَةٍ

اور بقا اور ہدایت اور دین اور دنیا

الْآخِرَةِ وَالْدُنْيَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ

کا اچھا انجام اور پناہ مانگتے ہیں تجھ سے

الشَّكِّ وَالشَّقَاقِ وَالرِّيَاءِ وَالسُّعَةِ

شک سے اور مخالفت سے اور دکھاوے اور سناوے

فِي دِينِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ لَا تُرِغْ

سے تیرے دین (کے کاموں) میں۔ اے دلوں کے پھینکنے والے ذمیر ٹھاکر

قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا

ہمارے دلوں کو، پیچھے اس کے کہ ہدایت دی تو نے ہم کو اور بخش ہم کو

مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ

اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو بڑا

الْوَهَّابُ ۝ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا

بخشنے والا ہے اے اللہ نہیں ہے آرام کی زندگی مگر

عَيْشَ الْآخِرَةِ ۝ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي

زندگی آخرت کی اے اللہ زندہ رکھ مجھ کو

مِسْكِينًا وَتَوَفَّنِي مِسْكِينًا وَأَحْشِرْنِي

مسکین کر کے اور مرا مجھ کو مسکینی میں اور اٹھانا مجھ

فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ ۗ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ

کو مسکینوں کی جماعت میں اے اللہ! تیری طرف

أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَ

شکوہ کرتا ہوں میں اپنی ناتوانی قوت کا اور اپنے حیلے کی کمی کا - اور

هُوَ إِنِّي عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اپنی خواری کا لوگوں پر اے سب رحم کرنے والوں سے بڑے رحم کرنے

إِلَى مَنْ تَكَلَّمْتُ إِلَى عَدُوِّ وَيَتَجَمَّسُنِي

والے، کس کی طرف سوچنے کا مجھ کو دشمن کی طرف تو وہ بیزار ہو گا مجھ سے

أَمْرًا إِلَى قَرِيبٍ مَلَكَتَهُ أَمْرِي إِنْ

یا سوچنے کا قریب کی طرف تو اس کو مالک کر دیکھا میرے کام کا (مولا)

لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي غَيْرَ

اگر نہ ہوا تو غصے مجھ پر تو مجھے کچھ پروا نہیں سوا

أَنَّ عَافِيَتَكَ أَوْ سَعَى لِي أَعُوذُ

اسکے کہ بخشش تیری بہت وسیع ہے میرے لئے پناہ مانگتا ہوں

بِنُورِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ الَّذِي أَضَاءَتْ

میں تیرے بزرگ چہرے کے نور کے ساتھ وہ کہ روشن ہو گئے جس

لَهُ السَّمَوَاتُ وَاشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ

کے لئے آسمان اور روشن ہو گئیں جس کے لئے تاریکیاں

وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اور سونر گیا جس کے سب کام دنیا اور آخرت کا

أَنْ تَحِلَّ عَلَىٰ غَضَبِكَ وَتُنزَلَ

اس سے کہ آئے تو مجھ پر غصہ اپنا اور ڈالے تو

عَلَىٰ سَخَطِكَ وَتَكُ الْعُتْبَىٰ حَتَّىٰ

مجھ پر خفگی اپنی اور کجی کو زیبا ہے خفا ہونا یہاں تک

تَرْضَاهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

کہ تو راضی ہو اور نہیں ہے پھرنا گناہ سے اور نہ طاقت نیکی پر مگر

بِكَ ۝ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ

(حزب الاعظم)

ساتھ توفیق بڑی کے۔ اے اللہ! تو نے پیدا کی

نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا

جان میری اور تو مارے گا اس کو، بڑے ہی لئے ہے موت اس کی

وَحَيَاتُهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَ

اور زندگی اس کی، اگر زندہ رکھے تو اس کو پس حفاظت کرا سکی دگن ہوں

إِنْ أَمَتَهَا فَاعْفُ رُفْلَهَا . اللَّهُمَّ إِنِّي

سے، اور اگر مائے تو اس کو پس بخش اس کو اے اللہ تحقیق میں

أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي

مانگتا ہوں تجھ سے سلامتی اے اللہ تحقیق میں

ضَعِيفٌ فَتَقَوِّنِي وَإِنِّي ذَلِيلٌ

کمزور ہوں پس طاقت دے مجھ کو اور تحقیق میں ذلیل ہوں

فَاعِزِّنِي وَإِنِّي فَقِيرٌ فَارْزُقْنِي ۝

پس عزت دے مجھ کو اور تحقیق میں محتاج ہوں پس رزق دے مجھ کو

اللَّهُمَّ لَا تَخْزِنِي فَإِنَّكَ بِي عَالِمٌ

اے اللہ نہ رسوا کر مجھ کو پس تحقیق تو مجھے جانتا ہے

وَلَا تَعَذِّبْنِي فَإِنَّكَ عَلَيَّ قَادِرٌ ط

اور نہ عذاب کر مجھ کو پس تھتیت تو مجھ پر قادر ہے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ وَسْوَءَ قَلْبِي

سے اللہ کر دے میرے دل کے وسوسوں کو

خَشِيَّتِكَ وَذِكْرِكَ وَاجْعَلْ هِمَّتِي

اپنا ڈر اور اپنا ذکر اور کر دے میری ہمت

وَهُوَ أَيْ فِيهَا تَجِبُ وَتَرْضَى ○

اور میری خواہش کو اس میں کہ پسند کرے تو اور راضی رہے

اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنْتَ

اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور تو نے

تَهْدِينِي وَأَنْتَ تَطْعِمُنِي وَأَنْتَ

مجھے ہدایت دی ہے اور تو ہی مجھے کھلاتا ہے اور تو ہی

تَسْقِينِي وَأَنْتَ تُبَيْتُنِي وَأَنْتَ

مجھے پلاتا ہے اور تو ہی مجھے مارے گا اور تو ہی

تَحْيِيَّتِي ۝ تَرْغِيبِ ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ

مجھے جلائے گا اے اللہ کر محبت اپنی سب

أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ

چیزوں سے زیادہ پیاری طرف میری اور کر ڈر اپنا سب

أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي وَاقْطَعْ

چیزوں کے ڈر سے زیادہ نزدیک میرے اور قطع کر

عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوقِ

مجھ سے حاجتیں دنیا کی اپنی ملاقات کے شوق ہیں

إِلَى لِقَائِكَ وَإِذَا أَقْرَمْتَ أَعْيُنَ

اور جب ٹھنڈی کرے تو انکھیں

أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرُرُ

دنیا داروں کی ان کی دنیا سے پس ٹھنڈی کر

عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ ۝ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي

انکھ میری اپنی عبادت سے اے اللہ نصیب کر مجھے

عَيْنَيْنِ هَظَّالَتَيْنِ تَسْقِيَانِ الْقَلْبَ

دونوں آنکھیں، آنسو بہانے والیاں، سینچنے والیاں دل کی

يَذُرُوفِ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ

اشکوں کے سیلاب سے تیرے ڈر سے، پہلے اس

أَنْ تَكُونَ الدَّمُوعُ دَمًا وَالْأَضْرَارُ

سے کہ ہو جائیں آنسو خون اور ڈاڑھیں

جَمْرًا اللَّهُمَّ احْرُسْنِي بِعَيْنِكَ

ٹھیکریاں۔ اے اللہ نگہبانی کر میری اپنی اس آنکھ کے

الَّتِي لَا تَنَامُ وَكَفُنِي بِرُكْنِكَ

ساتھ جو سوتی نہیں ہے اور مجھ کو اپنے اس رکن کیساتھ

الَّذِي لَا يُرَامُ وَارْحَمْنِي بِقُدْرَتِكَ

جو قصہ نہیں کیا جاتا اور رحم کر مجھ پر ساتھ اپنی قدرت کے

عَلَىٰ فَلَا أَهْلِكَ وَأَنْتَ رَجَائِي

جو مجھ پر ہے پس نہ ہلاک ہو جاؤں میں در حالیکہ تو میرا آسرا ہے

فَكَرَّمْنَا نِعْمَةً أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ قَلَّ

پس بہت نعمتیں ہیں جو انعام کیں تو نے مجھ پر ، بہت

لَكَ بِهَا شُكْرِي وَكَمْ مِنْ بَلِيَّةٍ

کم ہوئی مجھ سے ان پر شکر گزاری تیری ، اور بہت بلائیں

إِبْتَلَيْتَنِي بِهَا قَلَّ لَكَ بِهَا صَبْرِي

کہ مبتلا کیا تو نے مجھ کو ان میں دھیرا کم ہوا ان پر مجھ سے صبر بڑے

فَيَأْمَنُ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَتِهِ شُكْرِي

لئے۔ پس لے وہ ذات کہ کم ہوا۔ اس کی نعمت پر شکر میرا

فَلَمْ يَحْرَمْنِي وَيَأْمَنُ قَلَّ عِنْدَ

پھر نہ محروم کیا مجھ کو اور لے وہ ذات کہ کم ہوا اس کی

بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْذُلْنِي وَ

بلا پر صبر مجھ سے پھر نہ رسوا کیا مجھ کو ۔ اور

يَأْمَنُ زَانِي عَلَى الْخَطَا يَا فَلَمْ

لے وہ ذات کہ دیکھی اس نے مجھ کو خطاؤں پر پھرنے

يَفْضَحْنِي يَا ذَا السَّعْرُوفِ الَّذِي لَا

ذلیل کیا مجھ کو، اے صاحب خوبوں کے جو نہیں

يُنْقِضِي أَبَدًا وَيَا ذَا النِّعْمَاءِ الَّتِي لَا

فنا ہوں گی کبھی اور اے مالک نعمتوں کے جو نہیں

تُحْصِي أَبَدًا أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ

گنی جاسکتیں ہرگز میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ رحمت

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ

بھی اوپر محمد کے اور اوپر آل محمد کے اور

بِكَ أَدْرَعُ فِي نَحْوِ الْأَعْدَاءِ وَ

بیری ہی مدد سے دھکا دیتا ہوں دشمنوں اور جاہل

الْحَبَابِ بِرَبِّهِ ۝ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ

لوگوں کے سینوں میں اے اللہ تیرے ہی لئے ہے سب

حَمْدًا إِذْ أَسْمَاعُ دَوَامِكَ وَوَلَاكَ

تعریف، تعریف ہمیشہ کی ساتھ تیری ہمیشگی کے اور تیرے ہی

الْحَمْدُ حَمْدًا أَخَالِدًا مَعَ خُلُودِكَ وَ

لئے ہے سب تعریف ، وہ تعریف جو تیری بقا کے ساتھ باقی ہے اور

الْحَمْدُ حَمْدًا لَا مُنْتَهَى لَهُ دُونَ

تیرے ہی لئے سب تعریف ، وہ تعریف جس کی انتہا نہیں بن سکتی تیری

مَشِيَّتِكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا دَائِمًا

مشیت کے ، اور تیرے ہی لئے سب تعریف ، تعریف ہمیشہ کی

لَا يُرِيدُ قَابِلَهُ إِلَّا رِضَاكَ وَ لَكَ

کہ نہیں چاہتا اس کا کہنے والا ، مگر تیری خوشی اور تیرے ہی

الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةٍ

لئے ہے سب تعریف ہر پلک مارتے اور ہر

عَيْنٍ وَ تَنْفَسٍ كُلِّ نَفْسٍ اَللّٰهُمَّ

جی کے سانس بیتے وقت اے اللہ

وَ اَقِيَّةً كَوَاقِيَةَ الْوَالِدِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا

نگہبانی چاہتا ہوں جیسے نگہبانی بچے کی۔ اے اللہ تحقیق ہم

نَسْأَلُكَ قُلُوبًا أَوْ آهَةً مَخْبِتَةً مُنِيبَةً

مانگتے ہیں تجھ سے دل گڑگڑانے والے، عاجزی کرنے والے، رجوع کرنے والے

فِي سَبِيلِكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَسْتَ بِالهِ

تیری راہ میں۔ اے اللہ تحقیق نہیں ہے تو ایسا معبود

إِسْتَحْدَثْنَاهُ وَلَا يَرِبُّ يَبِيدُ ذِكْرُهُ

کہ جسے ہم نے آپ بنایا، ہو اور نہ ہے ایسا رب کہ فنا ہو جائے ذکر اس کا

أَبْتَدَعْنَاهُ وَلَا عَلَيْكَ شُرَكَاءُ يُقْضُونَ

جسے ہم نے پیدا کیا ہو اور نہ تیرے ساتھی ہیں جو حکم کریں

مَعَكَ وَلَا كَانَ لَنَا قَبْلَكَ مِنْ إِلَهِ

ساتھ تیرے اور نہ تھا تجھ سے پہلے، ہمارا کوئی معبود

نَلْجَأُ إِلَيْهِ وَنَذَرُكَ وَلَا أَعَانِكَ عَلَى

جس کی طرف پناہ پکڑیں ہم اور تجھے چھوڑ دیں اور نہ مددگی تیری

خَلِقْنَا أَحَدٌ فَنُشْرِكُكَ فِيكَ

کسی نے ہمارے پیدا کرنے میں جسے ہم تیرا شریک کریں

تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ فَسَأَلْتُكَ لَا

بڑی برکت والا ہے تو اور برتر ہے تو، بس تجھے ہی سے مانگتے ہیں ہم (ہر

إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اغْفِرْ لِي (حزب الاعظم) اللَّهُمَّ

ساجد) نہیں ہے کوئی معبود سوا تیرے۔ بخش دے مجھ کو۔ اے اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ

تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے ہر بھلائی جسکے خزانے تیرے

بِيَدِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

ہاتھ میں ہیں۔ اے اللہ تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز

شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ

کی برائی سے جس کی پیشانی کے بال تو پکڑ رہا ہے

وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي

اور مانگتا ہوں تجھ سے تمام بھلائی جو تیرے

هُوَ بِبَيْدِكَ كُلِّهِ (ابن حبان)

تنبھے میں سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت بھیج اوپر محمد کے اور آل اوپر آل

إِلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

محمد کے جیسے رحمت بھیجی تو نے اوپر ابراہیمؑ

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

کے اوپر آل ابراہیمؑ کے تحقیق تو تعریف کیا گیا

مَجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ

بزرگ ہے۔ اے اللہ برکت بھیج اوپر محمد کے

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

اور اوپر آل محمد کے جیسے برکت بھیجی

عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

تو نے اوپر ابراہیمؑ کے اور اوپر آل ابراہیمؑ کے

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝

تحقیق تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔



جُبُعہ

گراں بہا ہے ترا نغمہ سحر گاہی
اسی سے ہے ترے نخل کہن کی شادابی

منزل ساتویں ————— جمعہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰٓى مُحَمَّدٍ وَعَلٰٓى اٰلِ

اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر اور آل

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ

محمدؐ پر جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیمؑ پر

وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ

اور آل ابراہیمؑ پر تحقیق تو تعریف کیا گیا

مَجِيْدٌ ۝ اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰٓى مُحَمَّدٍ

بزرگ ہے اے اللہ برکت بھیج حضرت محمدؐ پر

وَعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى

اور آل محمدؐ پر جیسے برکت بھیجی تو نے

ابراہیمؑ پر اور آلِ ابراہیمؑ پر تحقیق تو

ابْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ

تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اے اللہ اور رحمت کر

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۙ اَللّٰهُمَّ وَتَرَحَّمْ

حضرت محمدؐ پر اور آلِ محمدؐ پر جیسے

عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

رحمت کی تو نے ابراہیمؑ پر اور آلِ

تَرَحَّمْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ

ابراہیمؑ پر تحقیق تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔

ابْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۙ

اے اللہ اور مہربانی کر حضرت محمدؐ پر اور

اَللّٰهُمَّ وَتَحَنَّنْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰى

آلِ مُحَمَّدٍ پَر جیسے مہربانی کی تو نے

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر تحقیق تو

حَبِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ

تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اے اللہ اور سلام بھیج

عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

حضرت محمد پر اور آل محمد پر جیسے

سَلَّمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ

سلام بھیجا تو نے ابراہیم پر اور آل

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ ط

ابراہیم پر تحقیق تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمد پر جو نبی

الْأُمَّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ

امی ہیں اور ان کی بیویوں پر جو مومنوں کی مائیں ہیں

وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ

اور ان کی اولاد پر اور ان کے گھر والوں پر جیسے رحمت بھیجی تو نے

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ

ابراہیمؑ پر اور آل ابراہیمؑ پر اور

بَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

برکت اتار حضرت محمدؐ پر جو نبی امی ہیں اور

عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِمْ

آل محمدؐ پر اور ان کی بیویوں پر اور

وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

ان کی اولاد پر جیسے برکت اتاری تو نے ابراہیمؑ پر

وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ

اور آل ابراہیمؑ پر سارے جہاؤں میں

إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ

تحقیق تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اے اللہ اتار ان کو

الْمُقَدَّاتِ الْمُقَرَّبِ عِنْدَكَ يَوْمَ

مقرب جگہ میں اپنے پاس قیامت

الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

کے دن - اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر

وَأَبْلِغْهُ الْوَسِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ

اور پہنچا ان کو وسیلہ (یعنی مقام محمود میں) اور جنت کے مرتبہ بلند

مِنَ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

میں اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ وَ

اور آل محمدؐ پر اور ان کے یاروں پر

أَوْلَادِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ

اور ان کی اولاد پر اور ان کے گھر والوں پر اور ان کی نسل پر

وَمُحِبِّيهِ وَاتَّبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ

اور ان کے دوستوں پر اور ان کی پیروی کرنے والوں پر اور انکی محبت

وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ يَا أَرْحَمَ

اور ہم پر بھی ان کے ساتھ سب ہی پر اے سب سے

الرَّاحِبِينَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

بڑھ کر ہر بان - اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر

مِلَأُ الدُّنْيَا وَمِلَأُ الْآخِرَةَ وَبَارِكْ

دنیا بھر اور آخرت بھر اور برکت بھیج

عَلَى مُحَمَّدٍ مِلَأُ الدُّنْيَا وَمِلَأُ

حضرت محمدؐ پر دنیا بھر اور آخرت

الْآخِرَةَ وَارْحَمِ مُحَمَّدًا مِلَأُ الدُّنْيَا

بھر اور رحم کر حضرت محمدؐ پر دنیا بھر

وَمِلَأُ الْآخِرَةَ ۞ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

اور آخرت بھر - اے اللہ عمیق میں مانگتا ہوں تجھ

يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا جَارَ

اے اے اللہ اے ہر بان اے رحم والے اے رُحْمُ

الْمُسْتَجِيرِينَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ يَا

مانگنے والوں کو رہائی دینے والے۔ اے ڈرنے والوں کو امن، اے

عِبَادَ مَنْ لَّا عِبَادَ لَهُ يَا سَنَدَ مَنْ

اس کے ستوں جسکا کوئی ستون نہیں۔ اے اس کے سہارا جسکا

لَّا سَنَدَ لَهُ يَا ذُخْرَ مَنْ لَّا ذُخْرَ لَهُ

کوئی سہارا نہیں۔ اے اسکے ذخیرہ جس کا کوئی ذخیرہ نہیں

يَا حِرْزَ الضُّعْفَاءِ يَا كَنْزَ الْفُقَرَاءِ

اے پناہ نالوں کے۔ اے خزانہ محتاجوں کے

يَا عَظِيمَ الرَّجَاءِ يَا مُنْقِذَ الْمَلِكِ

اے بڑی امید والے، اے نجات دینے والے ہلاک ہونیوالوں

يَا مُبْجِي الْفُرْقَةَ يَا مُحْسِنُ يَا

کے اے بچانے والے دو بتوں کے، اے احسان کرنے والے، اے

مُجِبُّ مَجْهَلٍ يَا مُنْعِمٌ يَا مُفْضِلٌ يَا

بخوبی والے، اے نعمت دینے والے، اے فضل والے

جَبَّارٍ يَامُنِيرُ أَنْتَ الَّذِي سَجَدَ

زبردست اے روشن کرنے والے، تو ہی ہے وہ کہ سجدہ کیا

لَكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَضَوْءُ النَّهَارِ

تیرے آگے رات کی سیاہی اور دن کے اجالے نے

وَشِعَاعُ الشَّمْسِ وَنُورُ الْقَمَرِ

اور سورج کی روشنی اور چاند کے نور نے

وَخَفِيقُ الشَّجَرِ وَدَوِيُّ الْمَاءِ يَا

اور درختوں کے آواز اور پانی کی آواز نے اے

اللَّهُ أَنْتَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَكَ

اللہ تو ہے اللہ نہیں کوئی شریک تیرا

أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

مانگتا ہوں تجھ سے درود بھیجنا حضرت محمدؐ پر

عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَى آلِ

کہ بندے تیرے ہیں اور رسول تیرے اور آل

مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

محمدؐ پر، اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ

اور آلِ محمدؐ پر جیسے کہ تو پسند کرے اور

تَرْضَاهُ لَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

راضی رہے ان کے لئے، اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر

نُورِ الْهُدَى وَالْقَائِدِ إِلَى الْخَيْرِ

کہ نور ہیں ہدایت کے اور کھینچنے والے ہیں نیکی کی طرف

وَالدَّاعِي إِلَى الرُّشْدِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ

اور بلانے والے ہیں بھلائی کی طرف، نبی رحمت کے

وَأِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَرَسُولِ رَبِّ

اور پیشوا پر، پرہیزگاروں کے اور رسول پر دروگاہ

العَالَمِينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ كَمَا

تمام جہانوں کے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جس طرح

بَلِّغْ رِسَالَتَكَ وَنَصَحْ لِعِبَادِكَ وَتَلَا

کہ پہنچایا تیرا پیغام اور نصیحت کی تیرے بندوں کو اور

آيَاتِكَ وَأَقَامَ حُدُودَكَ وَ

پڑھیں آیتیں تیری اور قائم کیں حدیں تیری اور

وَفِي بَعْثِكَ وَأَنْفَذَ حُكْمَكَ وَ

پورا کیا ہمد تیرا اور جاری کیا حکم تیرا اور

أَمْرٍ بِطَاعَتِكَ وَنَهَى عَنْ مَعْصِيَتِكَ

حکم دیا تیری بندگی کا اور منع کیا تیری نافرمانیوں سے

وَوَالِي وَوَلِيكَ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ

اور دوست رکھا تیرے اس دوست کو کہ تو پسند کرتا ہے

تُوَالِيَهُ وَعَادِي عَدُوِّكَ الَّذِي

دوست رکھنا اس کا - اور دشمنی کی تیرے اس دشمن سے کہ تو

تُحِبُّ أَنْ تُعَادِيَهُ وَصَلَّى اللَّهُ

پسند کرتا ہے دشمنی کرنا اس سے اور رحمت بھیجے اللہ تعالیٰ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ

ہمارے سردار حضرت محمدؐ پر اے اللہ کر دے

نَبِيَّنَا لَنَا فَرَطًا وَحَوْضَهُ لَنَا مَوْرِدًا

ہمارے نبی کو ہمارے لئے میرسنان (حشر میں) اور حوض (کوثر) انکا ہمارے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ

اترنے کی بیچ - اے اللہ رحمت بھیج نبی ہاشمی

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

حضرت محمدؐ پر اور ان کی آل پر اور انکے یاروں پر اور سلام بھیج

تَسْلِيمًا يَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

سلام بھیجنا - اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر جو

خَيْرِ الْبَرِيَّةِ صَلَوةً تُرْضِيكَ وَ

بہترین ساری خلاق کے ہیں ایسی رحمت کہ وہ خوش گمے تجھ کو اور

تُرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَا أَرْحَمَ

خوش گمے ان کو اور تو راضی ہو جائے بسبب اسکے ہم ہے اے سب

الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

ہر باتوں سے بڑے مہربان! اے اللہ رحمت بیچ حضرت محمدؐ پر

إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ

جو پیشوا ہیں نیکی کے اور قائد ہیں بھلائی کے اور رسول ہیں

الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

رحمت والے۔ اے اللہ رحمت بیچ حضرت محمدؐ پر

فِي اللَّيْلِ إِذَا يَضَىٰ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

رات میں جب امیر چھا جائے اور رحمت بیچ حضرت

فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَصَلِّ عَلَى عَلِيٍّ

محمدؐ پر دن میں جب روشن ہو جائے اور رحمت بیچ

مُحَمَّدٍ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ

حضرت محمدؐ پر آخرت میں اور دنیا میں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الصَّلَاةِ

اے اللہ رحمت بیچ حضرت محمدؐ پر رحمت

التَّامَّةَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِالْبَرَكَةِ

کامل اور برکت اتار حضرت محمدؐ پر برکت

التَّامَّةَ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ السَّلَامَ

پوری - اور سلام بھیج حضرت محمدؐ پر سلام

التَّامَّ وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

پورا - اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر جو

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْقُرَيْشِيِّ الْهَاشِمِيِّ

نبی ہیں امی قریشی والے ، ہاشمی والے

الْأَبْطَحِيِّ التِّهَامِيِّ الْمَكِّيِّ صَاحِبِ

ابطح والے تہامی والے مکے والے صاحب

التَّاجِ وَالْهَرَاوَةِ وَالْجِهَادِ وَالْكَرَامَةِ

تاج (نبوت) اور عناکے اور صاحب جہاد اور بزرگی کے

وَالْمَغْنَمِ وَالْمُقَسَّرِ صَاحِبِ الْخَيْرِ

اور غنیمت اور بانٹنے کے صاحب نیکی

وَالْجُودِ صَاحِبِ السَّرَايَا وَالْعَطَايَا

اور سخاوت کے ، صاحب شکروں اور بخششوں کے

وَالْآيَاتِ الْمُعْجَزَاتِ وَالْعَلَامَاتِ

اور صاحب نشانیوں عاجز کرنے والیوں کے اور صاحب نشانیوں

الْبَاهِرَاتِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَ

روشنی کے اور صاحب مقام محمود کے اور

الْحَوْضِ الْمُرُودِ وَالشَّفَاعَةِ وَ

حوض کے جس پر اتریں گے اور صاحب شفاعت کے اور

السُّجُودِ لِلرَّبِّ الْوَدُودِ اَللّٰهُمَّ

سجدوں کے واسطے رب ودود کے ۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ بِأَفْضَلِ مَا

رحمت بھیج حضرت محمد پر بڑھ کر اس سے کہ

صَلَّيْتَ عَلٰی أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ

رحمت بھیجی تو نے کسی پر

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ مِثْلَ ذَالِكَ

اور برکت اتار حضرت محمدؐ پر اسی قدر

وَارْحَمْ مُحَمَّدًا مِثْلَ ذَالِكَ

اور رحمت کر حضرت محمدؐ پر اسی قدر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر کہ تیرے بندے

وَرَسُولِكَ وَأَعْطِهِ أَفْضَلَ رَحْمَتِكَ

اور تیرے رسول ہیں اور دے ان کو سب سے بڑھ کر رحمت اپنی

وَأَيُّ الشَّرَفِ عَلَى خَلْقِكَ يَوْمَ

اور دے ان کو شرف اپنی سب مخلوق پر قیامت

الْقِيَامَةِ وَأَجْزِهِ خَيْرَ الْجَزَاءِ وَ

کے دن اور جزائے ان کو بہتر جزا سے اور

السَّلَامَ عَلَيْهِ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ

سلام ہو ان پر اور رحمت اللہ کی اور برکتیں اس کی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ رحمت بھیج ہمارے سردار حضرت محمدؐ پر

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتٌ

اور ہمارے سردار حضرت محمدؐ کی آل پر وہ رحمت کہ جس

لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا اِنْتِهَاءَ وَلَا اَمَدًا

کی نہ انتہا ہے اور نہ پایاں اور نہ کنارا ہے

لَهَا وَلَا اَنْقِضَاءَ صَلَوَاتٌ دَائِمَةٌ

اور نہ تمام ہونا ہے۔ وہ رحمت جو ہمیشہ ہے۔ اے اللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ

رحمت بھیج ہمارے سردار حضرت محمدؐ ابن

عَبْدِ اللَّهِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَ سَيِّدِ

عبد اللہ پر کہ خاتمہ ہیں سب پیغمبروں کے اور سردار

الْمُرْسَلِينَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَ

ہیں رسولوں کے اور پیشوا ہیں پر بزرگواروں کے اور

رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الشَّاهِدِ

رسول پروردگار سب جہانوں کے گواہ

الْبَشِيرِ الدَّاعِي إِلَيْكَ بِإِذْنِكَ

خوشخبری دینے والے ، بلانے والے تیری طرف تیرے حکم سے

السِّرَاجِ الْمُنِيرِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ

چراغ روشن اور اُن پر سلام ہو،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت بھیج ہمارے سردار حضرت محمدؐ پر

الَّذِي أَشْرَقَتْ بِنُورِهِ الظُّلَمُ

جن کے نور (ہدایت) سے روشن ہو گئے اندھیرے (بدیوں کے)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت بھیج ہمارے سردار حضرت محمدؐ پر جو

الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِّكُلِّ الْأُمَّةِ

بھیجے گئے رحمت بنا کر ساری امتوں کے لئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت بھیج ہمارے سردار حضرت محمدؐ پر جو

الْمَوْصُوفِ بِأَفْضَلِ الْأَخْلَاقِ

موصوف ہیں سائخہ عمدہ عادتوں

وَالسَّيِّمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور خصلتوں کے۔ اے اللہ رحمت بھیج ہمارے سردار

مُحَمَّدٍ الْمَخْصُوفِ بِمَجَازِمِعِ

حضرت محمدؐ پر جو خاص کئے گئے سائخہ جامع

الْكَلِمِ وَخَوَاصِّ الْحِكْمِ اللَّهُمَّ

کلمات کے اور خاص حکمتوں کے اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

درود بھیج ہمارے سردار حضرت محمدؐ پر ایسا درود

دَائِمَةً مُسْتَمِرَّةً الدَّوَامِ عَلَى مَرٍّ

کہ ہمیشہ ہو۔ ہمیشہ جاری رہے برابر جاری رہنے

اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ مُتَّصِلَةَ الدَّوَامِ لَا

راتوں اور دنوں کے برابر ملا ہوا ہمیشہ کو اس طرح پیر کر نہ

انْقِضَاءَ لَهَا وَلَا انْصِرَامَ عَلَى مَرٍّ

نہایت ہو واسطے اس کے اور نہ منقطع ہو اوپر طریق جاری رہنے

اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ عَدَدَ كُلِّ وَابِلٍ

راتوں اور دنوں کے بشمار ہر ہینہ اور

وَطَّلَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اوس کے۔ اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر کہ

عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ

بندے تیرے ہیں اور رسول تیرے اور رحمت بھیج مومن مردوں

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

اور مومن عورتوں پر اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ

اے اللہ کر دے تو اعلیٰ رحمتیں اپنی

وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَةِ تَحَنُّنِكَ

اور بڑھنے والی برکتیں اپنی اور بڑی ہر باتوں اپنی

عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ

حضرت محمدؐ پر کہ بندے تیرے اور رسول تیرے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَبْلِغْهُ

اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر اور پہنچا ان کو

الْوَسِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ

وسیلہ میں (مقام محمود) اور بلند مرتبہ میں

مِنَ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

جنت سے اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر جو

النَّبِيِّ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنْ

نبی ہیں بشمار اس کے جس نے درود بھیجا ہے ان پر تیری

خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

مخلوق میں سے اور رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر جو نبی ہیں

كَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ

جیسا کہ ہم کو لائق ہے درود بھیجنا ان پر اور

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ كَمَا

رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر جو نبی ہیں جیسا

أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ

حکم کیا تو نے ہم کو درود بھیجنے کا ان پر اے اللہ

ارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَأَكْرِمْ مَقَامَهُ وَ

بلند کر مرتبہ رحمت عالم کا اور بزرگ تر کر جگہ ان کی اور

ثَقِّلْ مِيزَانَهُ وَأَجْزِلْ ثَوَابَهُ وَ

بھاری کر میزان انہی اور کثیر کر اجر ان کا اور

أَفْلِحْ حُجَّتَهُ وَأَظْهِرْ مِلَّتَهُ وَأَضِيءْ

روشن کر دلیل ان کی اور غالب کر دین ان کا اور روشن کر

نُورَهُ وَأَادِمْ كَرَامَتَهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ

تورہ ان کا اور ہمیشہ رکھ بزرگی ان کی، ان کی اولاد میں

وَأَهْلَ بَيْتِهِ مَا تَقَرَّبَ عَيْنُهُ وَ

اور ان کے گھر والوں میں جس سے ٹھنڈی ہو آنکھ اٹکی اور

عَظَمَتُهُ فِي النَّبِيِّينَ الَّذِينَ خَلَوْا

عظمت کر ان کی نبیوں میں جو گزر گئے

قَبْلَهُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ أَبَدًا أَبَدًا

ان سے پہلے اور درود اور سلام بھیج ان پر ہمیشہ ہمیشہ

اللَّهُمَّ أَيْدِعْ رُوحَ مُحَمَّدٍ مِنِّي تَحِيَّةً

اے اللہ پہنچا حضرت محمدؐ کی روح کو میری طرف سے دعا ہے

وَسَلَامًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا

نیر اور سلام - اے اللہ رحمت بھیج ہمارے سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَوْلِيَاءِ

اور ہمارے مولا حضرت محمدؐ پر کہ سردار ہیں اہلوں

وَالْآخِرِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا

اور پچھلوں کے - اے اللہ رحمت بھیج ہمارے سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَ

اور ہمارے مولا حضرت محمدؐ پر ہر وقت اور

حِينَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَٰ سَيِّدِنَا وَ

ہر زمانہ میں - اے اللہ رحمت بھیج ہمارے سردار اور

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْهَلَاكِ الْأَعْلَىٰ

ہمارے مولا حضرت محمدؐ پر درمیان سگرگاہ بلندتر فرشتوں کے

إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَٰ

دن قیامت تک - اے اللہ رحمت بھیج

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

ہمارے سردار اور ہمارے مولا حضرت محمدؐ پر بشمار (بارش

كُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَىٰ

کی، ہر بوند کے جو گرتی ہے آسمان سے زمین

الْأَرْضِ وَمَا تَقْطُرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۞

کیطرف اور جو بوندیں کہ گریں گی قیامت کے دن تک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اے اللہ رحمت بھیج ہمارے سردار اور ہمارے مولا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَوْ رَاقِ الْأَشْجَارِ

حضرت محمدؐ پر بشمار پتوں درختوں کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اے اللہ رحمت بھیج ہمارے سردار اور ہمارے مولا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مِيَاهِ الْبِحَارِ اللَّهُمَّ

حضرت محمدؐ پر بشمار پانیوں دریاؤں کے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

رحمت بھیج ہمارے سردار اور ہمارے مولا حضرت محمدؐ پر

عَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَضَاءُ

بشمار اس کے کہ اندھیرا کیا اس پر رات نے اور اجالا کیا

عَلَيْهِ النَّهَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اس پر دن نے۔ اے اللہ رحمت بھیج ہمارے سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ

اور ہمارے مولا حضرت محمدؐ پر صبح اور شام کے اوقات میں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اے اللہ رحمت بھیج ہمارے سردار اور ہمارے مولا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّمَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ

حضرت محمدؐ پر بشمار دیتوں کے۔ اے اللہ رحمت بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ

ہمارے سردار حضرت محمدؐ پر بشمار اس کے کہ گھیرا

بِهِ عِلْمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ صَلَوَةٌ

اسے تیرے علم نے اور ضبط کیا اسے تیری کتاب (لوح محفوظ) نے

تَكُونُ لَكَ رِضًى وَلِحَقِّهِ أَدَاءٌ وَ

ایسا درود کہ ہو تیرے لئے بسبب خوشنودی کا اور ان کلمے کی ادائیگی

أَعْطَاهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَ

کا اور عطا کر ان کو وسیلہ اور بزرگی اور

الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ وَابْعَثُهُ الْمَقَامَ

درجہ بلند اور امثال ان کو اے اللہ مقام

الْمَحْمُودِ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَأَجْزِهِ

محمد میں جس کا وعدہ کیا ہے تو نے ان سے اور جزا

عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَٰ

ئے انکو ہم سب کی طرف سے وہ جزا کہ لائق انکے ہے۔ اے اللہ رحمت

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَٰكَ الَّتِي

بھیج ہمارے سردار حضرت محمدؐ پر مثل اس رحمت کے کہ بھیجی

صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَٰ سَيِّدِنَا

تو نے ان پر اور سلام بھیج ہمارے سردار

مُحَمَّدٍ سَلَامَكَ الَّذِي سَلَّمْتَ

حضرت محمدؐ پر مثل اس سلام کے کہ بھیجا تو نے

عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان پر۔ اے اللہ رحمت بھیج ہمارے سردار حضرت محمدؐ پر

صَلَاةً لَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا أَبَدٍ وَلَا

ایسی رحمت کہ نہ منقطع ہو آخر زمانے تک اور نہ

تَبِيدُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ

فنا ہو۔ اے اللہ رحمت بھیج اور سلام اور برکت فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ہمارے سردار حضرت محمدؐ پر اور ہمارے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ الْكُرَمَاءِ مِنْ

سردار حضرت محمدؐ کی آل پر جو بزرگ ترین ہیں تیرے سب

عِبَادِكَ وَأَشْرَفِ الْمُنَادِينَ لِطُرُقِ

بزرگ ترین بندوں سے اور بزرگ ترین پکارنے والوں سے تیری ہدایت

رَسَائِكَ وَسِرَاجِ أَقْطَارِكَ وَبِلَادِكَ

کی راہوں پر، اور چراغ ہیں تیرے کناروں زمین کے اور تیرے

صَلَاةً لَا تَفْنَى وَلَا تَبِيدُ ۝ اللَّهُمَّ

شہروں کے ایسا درود کہ نہ فنا ہو اور نہ نیست۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

رحمت اور سلام اور برکت اتار ہمارے سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حضرت محمدؐ پر اور ہمارے سردار حضرت محمدؐ کی آل پر کہ

الرَّفِيعِ مَقَامُهُ الْوَاجِبُ تَعْظِيمُهُ

بند ہے مقام ان کا ، واجب ہے تعظیم ان کی ،

وَاحْتِرَامُهُ صَلَوةٌ لَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا

اور بزرگی ان کی ، ایسا درود کہ نہ منقطع ہو کبھی

وَلَا تَنْحَصِرُ عَدَدًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اور نہ منحصر ہو شمار - اے اللہ رحمت بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الطَّاهِرِ

ہمارے سردار حضرت محمدؐ نبی امیؐ پر جو پاک

الطَّاهِرِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ ۝ اللَّهُمَّ

اور پاک کئے گئے ہیں اور انہی آل پر اور سلام بھیج اے اللہ

صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

رحمت بھیج ہمارے سردار اور ہمارے مولا حضرت محمدؐ پر۔

نَبِيِّ الْحُكْمِ وَالْحِكْمَةِ السَّرَّاجِ

جو نبی ہیں حکم اور حکمت کے چراغ

الْوَهَّاجِ الْمَخْصُوصِ بِالْخُلُقِ

روشن، خاص، نیک خلق

الْعَظِيمِ وَخَتَمِ الرُّسُلِ ذِي الْمَعْرَاجِ

عظیم کے اور ختم کرنے رسولوں کے صاحب معراج کے

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَاتَّبَاعِهِ

اور ان کی آل اور اصحاب اور پیروی کرنے والوں پر

السَّالِكِينَ عَلَى مَنَهْجِهِ الْقَوِيمِ

جو چلنے والے ہیں آپؐ کی روش پر جو سیدھی ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت بھیج ہمارے سردار حضرت محمدؐ پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتٌ

ہمارے سردار حضرت محمدؐ کی آل پر ایسی رحمت کہ ہمیشہ

دَائِمَةٌ مُّسْتَمِرَّةٌ مَا تَلَا طَهَتْ فِي الْبَحْرِ

پے در پے رہے جب تک مظلوم ہوا کرے دریاؤں میں

الْمُوجُ وَطَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مِنْ

ہروں کا اور جب تک طواف کیا کریں کعبہ شریف میں

كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٍ الْحُجَّاجِ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ

ہر ایک راہ دور سے آنے والے حاجی لوگ اور بزرگ نہیں درود

وَالتَّسْلِيمِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ رَّسُولِهِ الْكَرِيمِ

اور سلام نازل ہو حضرت محمدؐ پر جو اُس کے رسول بزرگ ہیں

وَصَفْوَتِهِ مِنَ الْعِبَادِ وَشَفِيعِ

اور اس کے برگزیدہ ہیں بندوں میں سے اور شفاعت کرنے والے

الْخَلَائِقِ فِي الْمِيْعَادِ صَاحِبِ الْمَقَامِ

(اللہ کے حکم سے) لوگوں کی قیامت کے دن میں۔ صاحب مقام

الْمَحْمُودِ وَالْحَوْضِ الْمُرْوَدِ وَصَلَّى اللَّهُ

محمود ، اور حوض (کوثر) کے جہاں پر لوگ اتریں گے اور رحمت

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ مَّسْمُورَةٌ

نازل فرمائے اللہ ان پر اور انکی آل پر ایسی رحمت کہ ہمیشہ جاری رہے

الدَّوَامِ عَلَىٰ مَرِّ اللَّيْلِ وَالْأَيَّامِ فَهُوَ

والی ہمیشہ ، جاری رہنے راتوں اور دنوں تک ۔ پس آپ

سَيِّدِ الْأَوْلِيَّيْنَ وَالْآخِرِينَ عَلَيْهِمَا

مردار ہیں اگلوں اور پچھلوں کے ۔ ان پر

أَفْضَلُ صَلَوَةِ الْمُصَلِّينَ وَأَنْزَكِ

بزرگ تر رحمت ہو درود پڑھنے والوں کی طرف سے اور پاکیزہ تر

سَلَامِ الْمُسْلِمِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ

سلام ، جو سلام بھیجنے والوں کی طرف سے ۔ اے اللہ رحمت بھیج

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ مِنْ الْفُضَاءِ وَ

حضرت محمد پر اور ان کی آل پر فضا بھر اور

عَدَدَ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ صَلَوَةٌ تُوَازِنُ

بشمار ستاروں آسمان کے ، ایسی رحمت کہ برابر ہو

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ

آسمانوں اور زمین کے اور بشمار اس کے کہ پیدا کیا تو

وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ

نے اور بشمار اسکے کہ پیدا کر نیوالا ہے تو اسکو قیامت کے دن تک

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ

اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر بشمار پانی

الْجَارِيَةِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّيَّاحِ

دوڑنے والی کے اور رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر بشمار ہواؤں

الذَّارِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ

پلنے والی کے ۔ اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر بشمار

مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيَّاحُ وَحَرَكَتَهُ مِنْ

اس کے کہ چلیں اس پر ہوائیں اور ہلایا اس کو

الْأَغْصَانِ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَوْرَاقِ وَ

پھنیوں سے اور درختوں سے اور پتیوں سے اور

الْثِّمَارِ وَالْأَزْهَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

پھلوں سے اور گیلیوں سے۔ اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر

عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى وَعَدَدَ نَبَاتِ

بشمار ریت اور کسکریوں کے اور بشمار ذہین

الْأَرْضِ وَالْمِيَاهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

کا بوٹیوں کے اور پانیوں کے۔ اے اللہ رحمت بھیج

مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْجِبَالِ وَالرِّمَالِ وَالْحِطِّ

حضرت محمدؐ پر بشمار پہاڑوں کے اور ریتوں اور سنگرنوں

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَشْجَارِ

کے اور رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر بشمار درختوں

وَأَوْرَاقِهَا وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اور ان کے پتوں کے اور رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر بشمار

السَّحَابِ وَمَا تُنْطَرُ مِنَ الْمِيَاهِ وَصَلِّ

بادل کے اور جو چیز برستی ہے پانیوں سے اور رحمت بھیج

عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّيَّاحِ وَصَلِّ عَلَى

حضرت محمدؐ پر بشمار ہواؤں کے اور رحمت بھیج حضرت

مُحَمَّدٍ عَدَدَ نَجْمِ السَّمَاءِ وَصَلِّ عَلَى

محمدؐ پر بشمار تاروں آسمان کے اور رحمت بھیج

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي بَحَارِكَ

حضرت محمدؐ پر بشمار اس چیز کے کہ جو پیدا کیا تو نے اپنے دریاؤں میں

مِنَ الْحَيَاتَانِ وَالذَّوَابِّ وَالْمِيَاهِ وَ

پھیلیوں اور جلاڑیوں اور پانیوں اور

الرِّمَالِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ النَّبَاتِ

ریگوں سے اور رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر بشمار روئیدگی

وَالْحِطَّةِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ التَّمَلُّ

اور سنگریزوں کے اور رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر بشمار چیز تیروں کے

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ عَلَيَّ

اور رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر بشمار اپنی نعمتوں کے اپنی

جَمِيعِ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

تمام خلق پر اور رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر

عَدَدَ مَا دَامَتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ اللَّهُمَّ

بشمار اُس (دوسرے) کے کہ جب تک رہے دنیا اور آخرت۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَا

رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر اور حضرت محمدؐ کی آل پر جب

سَبَعَتِ الْحَمَائِمُ وَسَرَحَتِ الْبِهَامُ

تک گونجیں کبوتر اور چرا کریں چار پائے۔

وَشَدَّتِ الْعَبَائِمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

اور باندھے جائیں عمامے۔ اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَا أَبْلَجَ الْأَصْبَاحُ

اور حضرت محمدؐ کی آل پر جب تک روشن ہو کریں صبحیں

وَهَبْتَ الرِّيحَ وَتَعَاقَبَ الغُدُوُّ وَ

اور چلا کریں ہوا میں اور پے در پے آیا کرے صبح اور

الرَّوَّاحُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ

شام۔ اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمد پر اور

عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَا دَارَتْ الْأَفْلَاقُ

حضرت محمد کی آل پر جب تک کہ گردش میں رہیں آسمان

وَسَبَّحَتْ الْمَلَائِكُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اور تسبیح کیا کریں فرشتے اے اللہ رحمت بھیج

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَا طَلَعَتِ

حضرت محمد پر اور حضرت محمد کی آل پر جب تک طلوع

الشَّمْسُ وَمَا ضَلَّتِ النُّجُومُ وَمَا

ہوا کرے آفتاب اور پڑھی جائیں پانچوں نمازیں اور جب

تَأَلَّقَ بَرَقٌ وَتَدَفَّقَ وَدُقُّ وَمَا

تک بجلی چمکے اور سینہ بر سے اور جب تک

سَبِّحْ رَعْدًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

تسبیح کو رعد (فرشتہ) نے اللہ رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر

الْمُبْعُوثِ مِنْ بَهَامَةٍ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ

جو مبعوث ہوئے زمین مکہ سے اور جو حکم کو نبوالے ہیں سامعہ نیکی

وَالِاسْتِقَامَةِ وَالشَّفِيعِ لِأَهْلِ الذُّنُوبِ

اور ثابت قدمی کے ، اور شفاعت کرنے والے ہیں گنہگاروں کی

يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

قیامت کے دن ۔ اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر

عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَا لَاحَ بَارِقٌ وَذَرَّ شَارِقٌ

اور حضرت محمدؐ کی آل پر جب تک چمکا کرے بجلی اور نکلا کرے سورج

وَوَقَبَ غَاسِقٌ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى

اور اندھیری ہوا کرے رات اور رحمت بھیج سرور عالم پیر اور

إِلَيْهِ صَلَاةٌ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى اللَّهُمَّ

ان کی آل پر ایسی رحمت کہ نہ شمار میں آئے اور نہ گنتی میں ۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ أَنْبِيَائِكَ وَ

رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر جو افضل سے تیرے سب نبیوں سے اور

سَيِّدِ وُلْدِ آدَمَ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ الصَّادِقِ

سردار ہیں سب اولاد آدم کے ، چراغ روشن ، سچے

الْأَمِينِ الْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ

امانت دار ، راہ دکھانے والے طرف سیدھی راہ کے

الَّذِي آتَيْتَهُ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَ

جن کو دی تو نے سات آیتیں (سورہ فاتحہ) اور

الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ أَوَّلِ

قرآن عظیم ، نبی رحمت کے پہلے

مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَيَدْخُلُ

ان سب کے جو قبروں سے نکلیں گے اور داخل ہونگے

الْجَنَّةَ الْمُبَشَّرِ بِهِ فِي التَّوْرَةِ وَ

بہشت میں (دہکہ) خوشخبری دی گئی ان کی تورات اور

الْإِنْجِيلِ الْمُصْطَفَى الْمُجْتَبَى الْمُنْتَخَبِ

انجیل میں ، برگزیدہ چنے گئے منتخب

أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

ابوالقاسم حضرت محمد بیٹے عبداللہ بن

عَبْدِ الْمُطَلِّبِ بْنِ هَاشِمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

عبدالطلب بن ہاشم کے اے اللہ رحمت بھیج

عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ النَّبِيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ

حضرت محمد پر نبی عربی قریشی

الْمَكِّيِّ التَّهَامِيِّ صَاحِبِ الْمِعْرَاجِ وَالْكَوْثَرِ

مکی تہامی ، صاحب معراج اور کوثر

وَالسَّلْسَبِيلِ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ

اور سلسبیل کے ، کھینچنے والے پھلتی پیشانی اور روشن

إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَغَايَةِ الْغَمَامِ

لاہتہ پاؤں والوں کے طرف بہشتوں نعمت کے اور غایت ابر رحمت کے

وَمُصْبِحٍ الظَّلَامِ وَقَمَرِ التَّمَامِ صَلَّى اللَّهُ

اور پورا اندھیرے کے اور پورے چاند چودھویں رات کے۔ رحمت

عَلَيْهِ وَالِإِصْلَوةَ دَائِمَةً ۝ اللَّهُمَّ

بیجھے اللہ ان پر اور ان کی آل پر رحمت ہمیشہ۔ اے اللہ

عَظْمُ شَانِهِ وَبَيْنَ بُرْهَانِهِ وَأَيْدِيهِ

بزرگ کر شان ان کی اور ظاہر کر دلیل ان کی اور روشن کر

حُجَّتَهُ وَبَيْنَ فَضِيلَتِهِ وَتَقَبُّلِ شَفَاعَتِهِ

حجت ان کی اور ظاہر کر فضیلت ان کی (حشر میں) اور قبول کر شفاعت

فِي أُمَّتِهِ وَاسْتِعْبَلْنَا بِسُنَّتِهِ يَا رَبِّ

ان کی امت میں اور عامل کر ہم کو ان کی سنت کا اے تمام جہاڑوں

الْعَالَمِينَ وَيَا رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

کے رب اور اے رب عرش عظیم کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت بھیج ہمارے سردار حضرت محمدؐ پر کہ وہ

الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ رَبَّنَا فِي مُحْكَمِ

جن پر رحمت بھیجی ہمارے رب نے اپنی حکم

كِتَابِهِ وَأَمْرًا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمَ

کتاب میں اور حکم کیا کہ درود بھیجا جائے ان پر اور سلام

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

رحمتیں اللہ کی ان پر اور انکی اولاد پر

وَأَزْوَاجِهِ مَا أَنْهَلَتِ الدِّيمُ وَمَا

اور پیسوں پر جب تک مینہ برستا رہے اور جب

جُرْتُ عَلَى الْمُنْزِلِينَ أَذْيَالُ

تک پھینچے جائیں گنہگاروں پر دامن

الْكَرِيمِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَشَرَفَ

بخشش کے اور سلام بھیجے سلام بھیجنا اور شرافت

وَكَرَّمَهُ اللَّهُمَّ احْشُرْنَا فِي

اور بزرگی - اے اللہ حشر کر ہمارا

زُمرَتِهِ وَتَحْتَ لِوَائِهِ وَأَسْقِنَا

حضرت اوزا کے زمرہ میں اور ان کے چھنڈے کے نیچے اور بلا ہم کو

بِكَاسِهِ وَأَنْفَعْنَا بِمَحَبَّتِهِ أَمِينٍ

ان کے پیالے سے اور نفع دے ہم کو ان کی محبت کا، قبول کر

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

اے رب تمام جہانوں کے اے اللہ تحقیق میں مانگتا ہوں

أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَتَتُوبَ عَلَيَّ

مجھ سے کہ بخش دے مجھ کو اور رحم کر مجھ پر اور توبہ قبول کر میری

وَتَعَافِيَنِي وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَالِدَيَّ وَ

اور عافیت میں رکھ مجھ کو اور یہ کہ بخش دے میرے ماں باپ کو اور

لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اور مسلمان مردوں

وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

اور مسلمان عورتوں کو جو ان سے زندہ ہیں اور جو فوت ہو گئے ہیں۔

وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ

اور راضی ہو اللہ حضورؐ کی بیبیوں سے جو پاکیزہ ہیں

وَأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ

مائیں مسلمانوں کی اور راضی ہو اللہ ان کے

أَصْحَابِهِ الْأَعْلَامِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

سب یاروں پر تتر سے اور سب تعریف اللہ کیلئے ہے جو رب

الْعَالَمِينَ

ہے سب جہانوں کا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ

لئے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمدؐ پر اور ان کی آل پر اور

صَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا تَسْلِيمًا طَيِّبًا

ان کے یاروں پر اور سلام بھیج کثرت سے سلام بھیجنا ایسا سلام کہ پاک ہو

مُبَارَكًا فِيهِ جَزِيلًا جَبِيلًا دَائِمًا

برکت دی گئی ہو اس میں بزرگ ہو، اچھا ہو، ہمیشہ رہے

بَدَاؤِ اِمْلٰكِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

ساتھ ہمیشگی ملک خدا کے ۔ اے اللہ رحمت نازل فرما ۔

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ

ہمارے سردار حضرت محمدؐ پر کہ نبی امتی ہیں ۔

وَعَلٰٓءِ اٰلِ مُحَمَّدٍ الْبَدِئِ هُوَ

اور آل حضرت محمدؐ پر ، جو اعلیٰ ہیں ۔

اَبْهٰی مِنْ الْقَبْرِ الثَّامِّ وَاكْرَمُ

چودھویں رات کے چاند سے اور زیادہ سخی ہیں

مِنَ السَّحَابِ الْمُرْسَلَةِ وَالْبَحْرِ

بدلی سے ، جو بھیجی گئی ہے مینہ کے ساتھ اور زیادہ سخی ہیں

الْخَطَرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا

دریائے بزرگ سے ۔ اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاٰلِ

اور ہمارے مولا حضرت محمدؐ پر اور ان کی آل پر اور

أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ عَدَدَ أَنْفَاسِ

ان کی بیبیوں پر اور ان کی اولاد پر بشمار ان کی اُمت کے

أُمَّتِهِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

سلسلوں کے - اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمدؐ پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

اور ان کے تابعوں پر جیسے رحمت بھیجی تو نے

عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

حضرت ابراہیمؑ پر اور حضرت ابراہیمؑ کے تابعوں پر

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ

حقیق تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے - اے اللہ

بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

برکت اتار حضرت محمدؐ پر اور حضرت محمدؐ کے تابعوں پر

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى

برکت جیسے اتاری تو نے حضرت ابراہیمؑ پر اور حضرت

الْإِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

ابراہیمؑ کے تابعوں پر - تحقیق تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا

پاکی بیان کر بددردگار اپنے، پروردگار عزت والے کی اس چیز سے

يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

کہ بیان کرتے ہیں اور سلامتی ہے پیغمبروں پر

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور سب تعریف وہ سلعے اللہ رب العالمین کے ہے

تری حدیث ہے اُمّ الکتاب کی تفسیر!

تم کو خدا کی کتاب کی تفسیر ملتی ہے

اللکتاب فی کلّ شئ

وہ جو ہے کل شئ کے کلمات ہے ملتی ہے

(شعر)

06964

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ملک کے طول و عرض میں قرآن و حدیث کا نور پھیلانے والی

مولانا محمد رفیق سیالکوٹی کی شہرہ آفاق تصانیف

کوئی مسلمان گھرانہ ان سترہ ایفخار کتابوں سے خالی نہیں رہنا چاہتیے

قیمت

قیمت

رحمت عالم کی دعائیں (۱۶)	صلوٰۃ الرسول (۱)
انوار الزکوٰۃ (۱۷)	جمال مصطفیٰ (۲)
صد اخلاقیات و روایات (۱۸)	انوار التوحید (۳)
تجلیات رمضان (۱۹)	ریاض الاخلاق (۴)
سرور و عالم کا پیغام آفریں (۲۰)	سید الکونین (۵)
شان رب العالمین (۲۱)	خطبہ رحمت للعالمین (۶)
جماعت مصطفیٰ (روای بطحا) (۲۲)	ضرب حدیث (۷)
ساقی کوثر (۲۳)	اعجاز حدیث (۸)
نماز جنازہ (۲۴)	قرآنی شمعیں (۹)
بستان الاربعین (۲۵)	اصلاح معاشرہ (۱۰)
ارشادات شیخ عبد القادر جیلانی (۲۶)	مسلمان کا سب سے بڑا امرت (۱۱)
مقام والدین (۲۷)	عالم عقبہ (۱۲)
بیاض الاربعین (۲۸)	سبیل الرسول (۱۳)
قبیل حج (۲۹)	جزب الرسول (۱۴)
نماز مقبول مع نوافل نماز (۳۰)	حج مسنون (۱۵)

رعایتی صرف

قیمت مکمل سیڈٹ

ہمارے ہاں! قرآن پاک ہر قسم قناسین احادیث، تراجم احادیث، قواعد، ادب، منطق، فلسفہ اور مولوی فاضل کی کتابیں مقابلہ انزل ملتی ہیں

مکتبہ نعمانیتہ
 اردو بازار —————
 مولانا رفیق سیالکوٹی